


فہرست

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۳	فضیلت اردو	۱
۲۳	فضیلت ہندی (فجلیلت हिन्दी)	۲
۵۰	دعائے اکسیر اعظم یکشنبہ (اتوار)	۳
۶۸	دوشنبہ (پیر)	۴
۹۷	سہ شنبہ (منگل)	۵
۱۱۵	چہار شنبہ (بدھ)	۶
۱۴۳	پنجشنبہ (جمعرات)	۷
۱۶۵	آدینہ (جمعہ)	۸
۱۸۸	شنبہ (سنپچر)	۹



فضائل دعائے اکسیر اعظم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○
بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلٰی سَیِّدِنَا هُوَ
مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ
وَ الشَّیْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِیْلَانِیِّ وَ اِلَيْهِ اَجْمَعِیْنَ ○

پیش نظر مبارک کتاب ”دعائے اکسیر اعظم“ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب ﷺ کی رحمت و شفقت سے اور حضور سیدی و مولائی و شیخی باز اشہب محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامل دستگیری اور نورِ غوثِ اعظم، کرم غوثِ اعظم، سیدی و مولائی حضرت مخدوم سید احمد ولی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی قلبی توجہ سے ترتیب میں آئی ہے یہ روحانی قلبی فیضان کا انمول مخزن ہے اور روحانی مکاشفات و انوار و تجلیات کے خزانوں سے لبالب ہے جس میں عالم حروف و کائنات حروف کے فیوض و برکات اور اسرار و رموز موجود ہیں، یہ کتاب رَبَّبْنَا اِتِّعَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

عَذَابِ النَّارِ (اے ہمارے پالنہار تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے) کی خیرات دنیا و آخرت عطا کرنے والی اور عذابِ جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے، یہ کتاب وَ اذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ (اور تم اپنے رب کا نام یاد کرو) اور وَ اذْكُرْ رَبَّكَ حَتّٰی يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ (اور تم اپنے رب کو یاد کرو یہاں تک کہ تمہیں مرتبہ حق الیقین ملے) کا فیض دینے والی ہے، وَ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا (اور تم اس کی صبح و شام پاکی بولو) کی مقبول بیروی کی توفیق دینے والی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ (بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم کے مرتبہ میں ظاہر فرمایا) کے مقام پر فائز کرنے والی ہے، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ (پھر ہم نے اسے اسفل سافلین کی سب سے نیچی گھاٹی میں اتار دیا) کی ذلت آمیز گھاٹی سے بچانے والی ہے، وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (اور تم سچوں کے ساتھ رہو) کی صحبت اور هُدًى لِّلنّٰسِ (لوگوں کے لئے ہدایت ہے) کی عمومی ہدایت اور هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے) کی خصوصی ہدایت، اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ (تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور ان کی جو

تم میں سے امر والے ہیں) کی اطاعت و امارت وَعَلَّمَنَا مِنْ لَدُنَّا
 عِلْمًا (اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا) کی علمی جلالت اور اِنِّي
 جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (بے شک میں زمین میں نائب
 بنا رہا ہوں) کی خلافت، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ (اور ہم نے زمین میں
 وارث بنایا) کی وراثت، عُلَمَاءُ أَهْبَعِي كَاتِبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 (میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں) کی روحانی
 خلعت اور أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (آج میں نے تمہارے
 لئے تمہارا دین مکمل کر دیا) کی دینی اکملت، وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي (اور میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی) کی دائمی نعمت کی تمامیت،
 وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (اور میں تمہارے لئے بطور دین
 اسلام سے راضی ہوا) کی ازلی وابدی بشارت اور أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ
 لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (سن لو! بے شک اللہ کے
 دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم) کے مقام پر تمکنت، لَهُ مَا فِي
 السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے
 اور زمین میں ہے) کی سلطنت اور وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ
 الْأَرْضِ (اس کی کرسی میں آسمان و زمین سمائے ہوئے ہیں) کی

وسعت، فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (تم جدھر متوجہ ہو ادھر اللہ کی
 قدرت متوجہ ہے) کی وجہیت اور وَسَفَّهُمْ رَجُّهُمْ شَرًّا أَبَا طَهْوَرًا
 (اور انہیں ان کے رب نے پاکیزہ جام پلایا) کی شربت اور قُلْ هُوَ اللَّهُ
 أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ (آپ ﷺ فرمادیں وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز
 ہے) کے نور احدیت و صمدیت پر قائم رکھنے والی اور وَكَفَى بِاللَّهِ
 شَهِيدًا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ (اور اللہ کافی ہے شہادت کے لئے محمد
 ﷺ اللہ کے رسول ہیں) کی کفایت و شہادت کے مقام سے شاد کام
 کرنے والی ہے، نِعْمَةُ الْبَرِّ، الْهَامُ رَبَّانِي، نِدَائِي رُوحِي وَ قَلْبِي عَطَا كَرْنِي وَالِي
 ہے، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
 محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں) کے بحر وحدت و کثرت میں شرا بور کرنے
 والی ہے، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (بے شک نفس بہت زیادہ
 برائی کا حکم دینے والا ہے) کی خباثت سے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ
 اللَّوَامَةِ (اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں) کی
 ملامت سے نکال کر يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ (اے نفس مطمئنہ)
 کی طمانیت، اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (تو اپنے رب کی
 طرف خوش خوشی پلٹ) کی رضائیت فَادْخُلِي فِي عِبْدِي وَادْخُلِي

جَنَّتِي (پس تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں جا) کی بشارت سے نوازنے والی اور اَلْحَمْدُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوِي (رحمن عرش پر جلوہ گر ہے) کی رحمانیت کا حلہ روحانی عطا کرنے والی ہے اور اِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (اگر اللہ چاہے تمہیں لے جائے اور نئی خلقت لے آئے) کی جدتِ خلقت عطا کر کے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى (پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا یہاں تک کہ وہ دو کمانوں کے فاصلوں کے برابر قریب آ گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک) کی قربت عطا کرنے والی ہے خلاصہ یہ کہ یہ مبارک کتاب وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا (اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو تم اسے شمار نہ کر سکو گے) کی دائمی ازلی وابدی نعمت کو شامل کئے ہوئے ہے۔

زیر نظر ”دعائے اکسیر اعظم“ اسمائے الہیہ و اسمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حروف منقوطہ وغیر منقوطہ پر مشتمل ہے اور جو حروف جن دنوں اور جن عناصر سے متعلق ہیں ان کو انہیں کے ساتھ لکھا گیا ہے اور ایام سے متعلق ہر حرف دعا میں چالیس بار مذکور ہے مثلاً حرف ”الف“ آتش ہے اور اس کا دن ہفتہ (سنپچر) ہے اور یہ غیر منقوطہ ہے پس ”الف“ سے متعلق دعا میں حرف ”الف“ حروف غیر منقوطہ کے ساتھ چالیس بار مذکور ہے اور

جیسے حرف ’ب‘ بادی ہے، اس کا دن بھی ہفتہ (سنپچر) ہے اور یہ منقوطہ ہے پس حرف ’ب‘ دعا میں چالیس بار حروف منقوطہ کے ساتھ مذکور ہے اسی طرح دوسرے حروف کو سمجھیں، جو شخص اس ”دعائے اکسیر اعظم“ کو ایام سے متعلق روزانہ صبح بعد فجر اور شام کو بعد مغرب پڑھنے کا معمول بنائے گا وہ ان تمام مذکورہ فضائل و انعامات سے مالا مال ہوگا اور وہ تمام سالوں تمام مہینوں، ہفتوں اور تمام دنوں اور راتوں کی خیرات و برکات سے نوازا جائے گا، وہ ہر دن ہر رات کی ہر برائی ہر بلا و مصیبت سے محفوظ ہوگا اور وہ دہر و قبر و حشر کی ہر تکلیفوں اور عذاب سے محفوظ رہے گا اس کا ظاہر و باطن زمانے کی تمام ظاہری و باطنی بیماریوں سے امن میں ہوگا اور جو شخص ”دعائے اکسیر اعظم“ میں مذکور ایام سے متعلق دعا کو شب میں چالیس بار گوشہ تنہائی میں پڑھے گا تو اس پر بے شمار انعامات الہیہ و کرامات رحمانیہ کا ظہور ہوگا اسے انبیاء اور رسولوں کی روحانی و قلبی شفقتیں عطا ہوگی اسے افراد صدیق و شہداء و صلحاء اور اولیاء کی کامل دستگیری حاصل ہوگی وہ جس کے حق میں دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا وہ مستجاب الدعوات ہوگا اللہ اسے اپنا دوست بنا لے گا اور اسے اپنے دوستوں کی ظاہری و باطنی ملاقات کا شرف بخشے گا وہ عرش معلیٰ کا مشاہدہ کرنے والا ہوگا ”دعائے

اکسیر اعظم، ہر دن و ہر رات کے فیوض و برکات کو شامل کئے ہوئے ہے اس میں اثرات کن فیکون کی حکمتیں موجود ہیں اس مبارک کتاب ”دعائے اکسیر اعظم“ کو مذکورہ طریقے سے پڑھنے والا عالم حروف کے روحانی کلمات کے فیوض و برکات کا مستحق ہوگا اور وہ کائنات پر اثر انداز ہونے والے حروف ظلمانی (ب، ت، ث، ج، خ، د، ذ، ز، ش، ض، ظ، غ، ف، و) کے تسلط سے آزاد ہوگا اسے حروف نورانیہ (ا، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ک، ل، م، ن، ہ، ی) کا فیض ملے گا اور ساری کائنات میں حکومت کرنے والے حروف کے اسرار اور فیوض و برکات سے نوازا جائے گا اس پر ہر خیر کے دروازے کھول دیئے جائیں گے، اور شر کے دروازے بند کر دیئے جائیں گے، وہ اللہ و رسول کا مقرب بندہ شمار کیا جائے گا اور اسے حضرت الہیہ میں دائمی حضوری کا شرف حاصل ہوگا وَ لِلّٰہِ الْحَمْدُ وَ لِلّٰہِ الشُّکْرُ عَلٰی کُلِّ حَالٍ۔

جسم انسانی چار عناصر سے مرکب ہے آب (پانی) خاک (مٹی) باد (ہوا) آتش (آگ) اور حروف ہجائیہ کے ۲۸ حروف ان چاروں عناصر پر حکمراں ہیں گویا تمام جسم ان ۲۸ حروف کے تابع ہیں اور تمام حروف کسی نہ کسی سیارہ سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کی تفصیل اس نقشے

میں ملاحظہ فرمائیں:

ابجد قمری مع سیارگان و عناصر

سیارگان	ایام	آتش	بادی	آبی	خاکی
زحل	ہفتہ	ا	ب	ج	د
شمس	اتوار	م	ن	س	ع
قمر	پیر	ذ	ض	ظ	غ
مریخ	منگل	ط	ی	ک	ل
عطارد	بدھ	ش	ت	ث	خ
مشتری	جمعرات	ہ	و	ز	ح
زہرہ	جمعہ	ف	ص	ق	ر

اس کی تفصیل یہ ہے کہ آتش (آگ) حرارت (گرمی) اور خشکی کی جامع ہے، ہوا رطوبت (تری) اور حرارت کی جامع ہے، اور آب (پانی) رطوبت اور برودت (سردی) کی جامع ہے اور تراب یعنی خاک (پوست) خشکی اور برودت (سردی) کی جامع ہے، اسی طرح ۴ طبائع ہیں وہ ”صفر، خون، بلغم، سودا“ ہیں صفر آتش کا مزاج رکھتا ہے اور خشک ہے، خون ہوا کا مزاج رکھتا ہے اور وہ گرم اور تر ہے، بلغم آب کا مزاج رکھتا

ہے وہ سرد اور تر ہے، اور سودا خاک کا مزاج رکھتا ہے وہ سرد اور خشک ہے۔
حروف ہجائیہ ۲۸ ہیں اور قمر کی منازل بھی ۲۸ ہیں چونکہ
۱۴ منازل زمین کے اوپر ہیں اور ۱۴ نیچے ہیں اسی وجہ سے یہ ۱۴
حروف لام تعریف کے ساتھ ملائے جاتے ہیں اور وہ ۱۴ حروف یہ ہیں
”ت، ث، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن“ انہیں حروف شمسیہ
کہتے ہیں اور ۱۴ حروف لام تعریف کے ساتھ ظاہر ہیں جنہیں حروف قمریہ
کہتے ہیں اور وہ حروف یہ ہیں: ”ا، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف،
ق، ک، م، و، ہ، ی“۔

سیدی و مولائی غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ
عنه کے روحانی فرزند اور آپ کے روحانی قلبی کامل فیضان سے مشرف
ہونے والے حضرت شیخ اکبر سیدی و مولائی محی الدین ابن العربی رضی اللہ
عنه ”فتوحات مکیہ“ میں فرماتے ہیں کہ گرمی اور خشکی آپس میں ملیں تو ان
سے آگ پیدا ہوئی، گرمی اور تری آپس میں ملیں تو ہوا بنی، سردی اور تری کا
ملاپ ہوا تو پانی بن گیا، سردی اور خشکی ایک دوسرے میں ضم ہوئیں تو اس
سے مٹی پیدا ہوئی، تو دیکھیں ہوا آگ اور نمی سے بنی ہے اور یہ نفس ہے جو
حیات حسیہ ہے اور یہ پانی زمین اور آگ ہر چیز کے لئے بنفہ محرک ہے
اور اس کی حرکت اشیاء کو حرکت دیتی ہے اس کے لئے زندگی ہے جب کہ

حرکت زندگی کی نشانی ہے۔

یہ چار ارکان امہات اول سے پیدا ہوتے ہیں بے شک ان
امہات اول سے مرکبات کو ان کے حقائق عطا ہوتے ہیں جو امتزاج کے
بغیر نہیں ہیں، پس حرارت سے گرم ہونا اس کے غیر سے نہیں ہوگا ایسے ہی
یہوست سے خشکی اور قبض کا ہونا ہے، جب آگ کو دیکھا کہ وہ پانی کو اس
کے مقام سے خشک کرتی ہے تو حرارت کے لئے یہ تخیل نہیں کہ وہ پانی
کے گڈھے میں ہے بے شک آگ حرارت اور خشکی کا مرکب ہے جیسا کہ
پہلے اس کی حرارت سے پانی خشک ہوتا ہے اور یہوست سے اس میں
خشکی واقع ہوتی ہے ایسے ہی نمی اور برودت بھی ہے کہ ٹھنڈک کے بغیر
اس میں نرمی نہیں آئے گی لہذا حرارت خشک کرتی ہے برودت ٹھنڈک
دیتی ہے اور نمی نرم کرتی ہے تو یہ امہات متنافرہ سوائے صورت کے کبھی جمع
نہیں ہو سکتیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ان کے حقائق یہ تقاضا کریں
اور ان میں کوئی جز کسی طرح اکیلا نہیں پایا جائے گا یہ ہمیشہ دو کی صورت
میں ہونگے یا تو گرمی یا خشکی ہوگی اکیلی گرمی نہیں پائی جائے گی، اس لئے
کہ وہ اکیلی نہیں ہو سکتی ہے واضح رہے کہ ان چار عناصر کو آپس میں ملانے
میں بڑے عجائبات ہیں یہ اس لئے کہ گرمی اور سردی ایک دوسرے کی ضد
ہیں یہ جمع نہیں ہو سکتیں اور جب یہ آپس میں جمع نہ ہونگی تو ان سے کوئی چیز

برآمد نہ ہوگی اسی طرح تری اور خشکی کی بھی کیفیت ہے ضد کی ضد دوسری ضد کی ضد سے ملتی ہے۔

”دعائے اکسیر اعظم“ ان جملہ عناصر سے متعلق روحانی حروف کی جامع ہے جو کہ انسانی ذات کو ان مرکب عناصر سے مخلوق ذاتوں کا خیر عطا کرنے والی ہے اور ان میں موجود شر سے بچانے والی ہے، تمام حروف کائنات میں موجود جملہ مخلوقات کے ظاہر و باطن میں اپنے مراتب کے ساتھ شامل ہیں اور ہر ایک کے لئے روحانی طور سے الگ الگ حروف کی شمولیت ہے جس سے اس کے ذات و صفات کی الگ شان ظاہر ہوتی ہے حتیٰ کہ حضرت الہیہ کے لئے ارباب صوفیہ نے ”ا، ز، ل“ مختص کئے ہیں، جو شخص ان سے واقفیت حاصل کر لے اس کے لئے کیا ہی عجیب حقائق ہیں علم الحروف ایسا پاکیزہ اور برتر علم ہے جسے دوسرے نہیں جانتے بلکہ اس سے جاہلوں کے سینے گھٹن اور تنگی محسوس کرتے ہیں، شیخ اکبر مچی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، حروف مخاطب و مکلف امتوں میں سے ایک امت ہیں اور ان کی جنس سے ان میں رسول ہیں اور ان کی حیثیت سے ان کے نام ہیں، ہمارے طریق سے اہل کشف کے سوا ان کی معرفت نہیں ہوتی زبان و بیان کی وضاحت کے لئے عالم حروف ”افصح العالم“ ہے ان حروف کی

اقسام ہیں جیسا کہ عالم معروف کی عرف میں قسمیں ہیں ان میں سے شیخ ابوطالب مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک عالم جبروت ہے اور وہ ”ہ اور ہمزہ (ا)“ ہے ہم اس کا نام عالم عظمت بھی رکھتے ہیں حروف کا ایک عالم عالم اعلیٰ عالم ملکوت ہے اور وہ ”حاء، خاء، ع، غ“ ہیں ان میں سے ایک عالم وسط ہے اور یہ ہمارے اور ہمارے اکثر دوستوں کے نزدیک عالم جبروت ہے اور وہ ”ت، ث، ج، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ظ، ق، ک، ل، ن، ی“ ہیں انہیں میں سے ایک عالم اسفل ہے اور یہ عالم ملک و شہادت ہے اور اس کے حروف ”ب، م، و“ ہیں ان میں عالم جبروت الوسط اور عالم شہادت کے درمیان عالم امتزاج ہے اور وہ ”ف“ ہے، ان میں عالم جبروت الوسط اور عالم ملکوت کے درمیان عالم امتزاج ہے اور وہ ”ق، ک“ ہے اور یہ امتزاج مرتبہ ہے۔

ان حروف میں سے صفت روحانیہ میں امتزاج ہے اور وہ ”ص، ض، ط، ظ“ ہیں ان حروف میں سے عالم جبروت اعظم اور عالم ملکوت میں امتزاج ہے اور وہ ”ح“ ہے ان میں سے ایک وہ عالم ہے جو ہمارے عالم کے مشابہ ہے وہ دخول و خروج میں ہم سے علیحدہ ہے اور یہ ”ا، و، ی“ ہیں یہ سب حروف کے عالم ہیں اور ہر عالم میں ان کی جنس سے ایک رسول ہے اور ایک شریعت ہے جس کی وہ پابندی کرتے ہیں ان کے یہاں

لطائف بھی ہیں کثافتیں بھی ہیں، ان پر امر خداوندی کا خطاب نازل ہوتا ہے، جب کہ ان کے لئے نہیں ہے۔

ان کے اندر عام، خاص، خاص الخواص اور اخص الخواص کے خصوصی خلاصے کے مراتب ہیں حروف میں سے عام یہ ہیں ”ج، خ، د، ش، ض، غ“ اور ان میں سے خاص الخواص حروف یہ ہیں ”ا، ب، ت، ح، غ، ہ، ص، ط، ق، ک، ل، ن، و، ذ“ اور ان میں اخص الخواص ’ب‘ ہے، حروف میں سے بعض خاص وہ ہیں جو عام سے ایک درجہ اوپر ہیں وہ ۱۴ حروف ہیں جو یہ ہیں ”ا، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ک، ل، م، ن، ہ، ی“ سیدی و مولائی حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے سیدی و مولائی عارف باللہ شیخ عبدالکریم اکیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشہور زمانہ کتاب ”الکھف والرقیم“ میں فرماتے ہیں یہی وہ حروف نورانیہ ہیں جو قرآن کریم کی سورتوں کے آغاز میں ہیں اور یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔

بعض حروف خاص الخواص کے خلاصے کا خصوصی عکس ہیں وہ یہ ہیں ”ا، ب، ث، د، ر، ز، س، ط، ظ، ف، ل، م، ن، و، ہ، ی“ ایک عالم حروف کا عالم مرسل ہے، اور وہ ”ج، ح، خ، ک“ ہیں، ایک عالم ایسا ہے جس کا ایک طرف اللہ کے ساتھ متعلق ہے اور دوسری طرف مخلوق کے

ساتھ ہے اور وہ حروف یہ ہیں ”ا، د، ذ، ر، ز، و،“ یہ حروف کروہیبین میں عالم تقدیس ہے۔

تین حروف حضرت انسان کے لئے ہیں وہ ”ن، ص، ض“ ہیں۔

حروف میں سے ایک قطب ہے جس طرح ہم میں سے ہیں اور وہ ”ا“ ہے ہم میں سے قطب کا مقام حیات قیومیہ ہے اور یہ اس کا خاص مقام ہے بے شک اس کی ہمت تمام عالم میں سیر کرتی ہے، حروف کے ۲۱ امام ہیں اور وہ ”و، ی“ ہیں حروف کے اوتاد ۴ ہیں ”ا، ن، و، ی“ حروف کے ابدال ۷ ہیں اور وہ ”ا، ت، ک، ن، و، ہ، ی“ ہیں۔ ملائکہ کے لئے یہ حروف ہیں ”ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ط، ظ، ف، ق، ک، م، و، ہ، ی“ اور جنات کے لئے یہ حروف ہیں خواہ وہ نوری ہوں یا ناری ”ج، ق، ک، و“ اور جانوروں کے لئے یہ حروف ہیں ”د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ع، غ“ نباتات کے لئے یہ حروف ہیں ”ا، ل، ہ“ اور جمادات کے لئے یہ حروف ہیں ”ب، ت، ث، ج، ح، خ، ر، ط، ظ، ف، ی“ اس کتاب میں صرف اسرار وجود کے اشارات جھلکیاں اور جلوے دکھانا مقصود ہے اگر حروف کے اسرار اور ان سے نکلنے والے حقائق کے بیان کا تفصیلی دروازہ کھول دیا جائے تو ان کو لکھنے کے لئے زندگیاں کم پڑ جائیں گی۔

شیخ اکبر محمد الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب ”الانسان

الکامل، میں فرماتے ہیں قطب ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے جس پر سارے امور دورہ کرتے ہیں پس ہر علاقہ میں اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے اللہ اس علاقہ کی حفاظت فرماتا ہے، پس وہ ولی اس علاقہ کا قطب ہوتا ہے وہ علاقہ خواہ کافر کا ہو یا مومن کا ہو، قطب کے درجات ہیں سارے عالم میں قطب واحد ہمارے سردار محمد ﷺ کی روح پاک ہے سارے عالم میں روح محمدی ﷺ کے لئے مظاہر ہیں اور اس کے اکمل مظہر قطب زمان اور افراد میں ہے، ہر قطب کے لئے روح اور صورت ضروری ہے جیسا کہ زمین زندہ رسول کے جسم کے ساتھ کبھی خالی نہیں رہی کیونکہ وہ عالم انسانی کا قطب ہے اگرچہ ہزاروں رسول ہوں ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے اور وہی امام مقصود ہوتا ہے پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کی ظاہری زندگی کے بعد بھی اس دار دنیا میں ظاہری زندگی والے رسول کو ان کے جسموں کے ساتھ باقی رکھا ہے اور وہ تین ہیں ان میں سے ادریس علیہ السلام جو اپنے جسم کے ساتھ ابھی باقی ہیں اور اللہ نے انہیں چوتھے آسمان پر رکھا ہے اور ساتواں آسمان عالم دنیا سے ہیں لہذا وہ دار دنیا کا ایک جز ہے اور زمین میں بھی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقی رکھا ہے (کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں زمین کی طرف اتریں گے) اور یہ دونوں رسولوں

میں سے ہیں یہ لوگ دین حنیفی کو قائم رکھتے ہیں جس کو ہمارے سردار محمد ﷺ لے کر آئے، پس یہ تینوں رسول ہیں جن پر سب کا اجماع ہے اور رہے حضرت خضر علیہ السلام تو ان کے رسول ہونے میں لوگوں کا اختلاف ہے لیکن ہمارے نزدیک نہیں پس یہ سب کے سب دار دنیا میں اپنے جسموں کے ساتھ باقی ہیں اور یہ سب کے سب اوتاد ہیں، ان میں سے ۲ امام ہیں اور ان میں سے ایک قطب ہے لہذا رسول اس دار دنیا میں قیامت تک رہیں گے اگرچہ وہ ناسخ شریعت کے ساتھ مبعوث نہیں ہیں اور نہ ہی وہ شریعت محمدی ﷺ کے غیر پر عامل ہونگے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور ان چاروں (حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام) میں سے ایک قطب ہے اور یہ دین کے گھر کے ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن حجر اسود ہے اور ان میں سے دو امام ہیں اور ان میں سے چوتھا اوتاد ہے ایک کے ذریعہ اللہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور دوسرے کے ذریعہ اللہ ولایت کی حفاظت فرماتا ہے اور تیسرے کے ذریعہ اللہ نبوت کو محفوظ رکھتا ہے اور چوتھے کے ذریعہ اللہ رسالت کی حفاظت فرماتا ہے اور ان مجموعہ کے ساتھ اللہ دین حنیفی کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی معرفت صرف اصحاب نوبہ کو ہے اور اصحاب نوبہ رسول نہیں ہوتے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ اصحاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم پر ہیں کچھ اقطاب وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہیں اور کچھ اقطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہیں پس وہ اقطاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے ہوئے وہ سب کے سب رسول ہیں اور وہ تین سو تیرہ ہیں اور رہے وہ اقطاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک ہونگے وہ ۱۲ اقطاب ہیں اور اصحاب ختم ان اقطاب سے خارج ہیں وہ سب اصحاب افراد ہیں اور یہ ۱۲ اقطاب میں سے کوئی ایک ہر زمانے میں رہے گا۔

معلوم ہونا چاہئے کہ افراد میں سے ایک قطب نائب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب سے ارواح ملکیت مہیمہ کی تخلیق فرمائی انہیں اللہ کے سوا کسی چیز کا علم نہیں، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ نے ان کے سوا کچھ پیدا کیا ہے اور وہ ملائکہ عالین کرویین معتکفین مقررین ہیں سجدہ آدم کے خطاب میں یہ حضرات خارج تھے انہیں عقل اول کہا جاتا ہے افراد کے دلوں میں اللہ کا جلال دائمی ہوتا ہے یہ سب حق کے سوا کچھ مشاہدہ نہیں کرتے یہ سب کے سب اس قطب کے حکم سے خارج ہیں جو امام ہوتا ہے پس افراد بشر دائرہ قطب کے تحت داخل نہیں ہوتا اور نہ اس میں کچھ تصرف ہوتا ہے وہ اس میں یکتا ہوتا ہے۔

قطب امام زمین میں اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے وہ زمانے کا خلیفہ اور نظر و تجلی کا محل ہوتا ہے اسی سے ظاہر عالم اور باطن عالم پر آثار صادر ہوتے ہیں وہ جس پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے اور جس کو سزا دیتا ہے اللہ اس پر عذاب کرتا ہے، اس پر امر الہی کا مدار ہوتا ہے نبوت و رسالت کے سوا عورتیں بھی جملہ مراتب کی اہلیت رکھتی ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو شرافت والا مختصر بنایا ہے اس میں عالم کبیر کے معانی جمع فرمایا ہے اور اسے عالم کبیر میں نسخہ جامعہ قرار دیا ہے چنانچہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا ہے) اس لئے کہ انسان کامل صورت کاملہ پر ہے اس کے لئے سارے عالم میں اللہ پاک کی جانب سے خلافت و نیابت صحیح ہے اور انسان میں عورت بھی شامل ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے کمال کی گواہی کے ساتھ عورتوں کے کمال کی بھی گواہی دی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كَمَلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرُونَ وَ كَمَلْتُ مِنَ النِّسَاءِ مَرِيحٌ بَدَتْ عِمْرَانَ وَ اَسِيَّةُ اِمْرًا اَكْفَرُ عَوْنَ (بہت سے مرد کامل ہیں اور بہت سی عورتیں بھی کامل ہیں جیسے مریم بنت عمران اور زوجہ فرعون بی بی آسیہ)

ہر شخص کے لئے اسم الہی کی طرف ایک نسبت ہے اور ہر ولی

کے لئے ایک اسم الہی ہوتا ہے جس کو خاص کر کے اس کو اسی نام سے بلایا جاتا ہے اگرچہ اس کا نام کچھ بھی ہو پس قطب عبد اللہ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَآتَاهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ** (اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہے) یعنی محمد ﷺ پس اللہ نے آپ کا نام عبد اللہ رکھا ہر عالم میں آپ کے مختلف نام ہیں (چنانچہ عالم برزخ میں آپ ﷺ کا نام شمس الدین ہے اور عالم ملکوت میں آپ ﷺ کا نام احمد ہے اور عالم ناسوت میں محمد ﷺ ہے اور ابدی قطب کے اعتبار سے آپ ﷺ عبد الجامح کے نام سے مختص ہیں) اور ان تمام ناموں کا جامع عبد اللہ ہے اور ائمہ ہر زمانے میں عبد الملک اور عبد الرب ہوتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کہ ان کا نام عبد الشکور ہے اور داؤد علیہ السلام کا اسم خاص عبد الملک ہے، زمین میں اللہ کا خلیفہ ہمیشہ وہی ہوگا جسے قرآن پاک کے ابتدائی حروف کے معانی معلوم ہوں یہی وہ اولیاء ہیں جن کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا **إِذَا رُؤُوا ذَكَرُوا اللَّهَ** (جب لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آتا ہے) یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے نبی کریم ﷺ کا فرمان انہیں اولیاء کرام کے ساتھ ہے جنہیں قرآن کریم کے ابتدائی حروف کے معانی غیب الغیب سے حاصل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے، حق بولنے کی

توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ (الانسان اکامل ملخصاً)
اللہ الہادی رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ تمام انس و جنات کو ”دعائے اکسیر اعظم“ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ظاہری و باطنی حروف و کلمات کی برکتوں سے سب کے ظاہر و باطن کو مالا مال فرمائے۔

بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَى أَشْرَفِ الْمَخْلُوقَاتِ وَمَبْدَأِ الْمَوْجُودَاتِ وَسَيِّدِ
الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ وَرَحْمَةِ الْعَالَمِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَكُلِّ أُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ وَبَارَكَ وَسَلَّم
دَائِمًا أَبَدًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ سُبْحَانَ
رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

मख़ज़न है और रूहानी मुकाशिफ़ात व अनवार व तजल्लियात के ख़ज़ानों से लबालब है जिस में आलमे हुस्फ़ व काइनाते हुस्फ़ के फ़ुयूज़ व बरकात और अस्सार व रूमूज़ मौजूद हैं, यह किताब رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (ऐ हमारें पालनहार तू हमें दुनिया में भलाई दे और आख़िरत में भलाई दे और हमें आग के अज़ाब से बचाले) की ख़ैराते दुनिया व आख़िरत अता करने वाली और अज़ाबे जहन्म से बचाने वाली ढाल है, यह किताब **وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ** (और तुम अपने रब का नाम याद करो) और **وَادْكُرْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** (और तुम अपने रब को याद करो यहाँ तक कि तुम्हें मर्तबाए हक्कुल यकीन मिले) का फ़ैज़ देने वाली है, **وَسَجِّدْ** (और तुम उसकी सुब्हो शाम पाकी बोली) की मक़बूल पैरवी की तौफीक़ देने वाली है, **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** (बेशक हमने इन्सान को अहसने तक़वीम के मर्तबा में ज़ाहिर फ़रमाया)के मक़ाम पर फ़ाइज़ करने वाली है, **نُورٌ**

फ़ज़ाइल

दुआए इत्सीरे अअज़म

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا هُوَ
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ
 وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ وَإِلَيْهِ أَجْمَعِينَ

पेशे नज़र मुबारक किताब “दुआए इत्सीरे अअज़म” अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम और उसके हबीब **ﷺ** की रहमत व शफ़क़त से और हुज़ूर सय्यिदी व मौलाई व शैख़ी बाज़े अशहब मोह्युदीन सय्यिद अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु तआला अन्हु की कामिल दस्तगीरी और नूरे ग़ौसे अअज़म, करमे ग़ौसे अअज़म, सय्यिदी व मौलाई हज़रत मख़दूम सय्यिद अहमद वलीयुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु की रूहानी व कल्बी तवज्जोह से तर्तीब में आई है यह रूहानी व कल्बी फ़ैज़ान का अन्मोल

मोकम्मल कर दिया) की दीनी अक्मलीयत, وَأَمَّتْ (और मैंने तुम पर अपनी नेअमत मोकम्मल करदी) की दाइमी नेअमत की तमामीयत, وَأَرْضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا, (और मैं तुम्हारे लिए बतौरे दीने इस्लाम से राजी हुवा) की अज़्ली व अब्दी बशारत और الْإِنِّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ (सुनलो! बे शक अल्लाह के दोस्तों को ना कुछ खौफ़ है ना कुछ ग़म) के मक़ाम पर तमक्कुनत وَمَا فِي الْأَرْضِ (उसी के लिए है जो कुछ आस्मानों में है और ज़मीन में है) की सलत्नत और كُرْسِيِّهِ (और उसकी कुर्सी में आस्मान व ज़मीन समाए हुए हैं) की वुस़अत فَأَيُّهَا تُولُوا فَتَمَّ (तुम जिधर मोतवज्जेह हो उधर अल्लाह की कुदरत मोतवज्जेह है) की वज्हिyyत और وَسَقَطَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَّ آبَا طَهُورًا (और उन्हें उनके रब ने पाकीज़ा जाम पिलाया) की शर्बत और قُلْ هُوَ اللَّهُ (आप ﷺ फ़रमादेँ वह अल्लाह एक है अल्लाह बेनियाज़ है) के नूरे अहदिyyत व

(फिर हमने उसे अस्फ़ले साफ़ेलीन की सब से निचली घाटी में उतार दिया) की ज़िल्लत आमेज़ घाटी से बचाने वाली है, وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ, (और तुम सच्चों के साथ रहो) की सोहबत और هُدَىٰ لِلنّٰسِ (लोगों के लिए हिदायत है) की उ़मूमी हिदायत और هُدَىٰ لِلْمُتَّقِيْنَ (परहेज़गारों के लिए हिदायत है) की खुसूसी हिदायत, أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ, (तुम अल्लाह की एताअत करो और रसूल की और उनकी जो तुम में से अग्र वाले हैं) की एताअत व एमारत, وَعَلَمَنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا, (और हमने अपने पास से इल्म दिया) की इल्मी जलालत और إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (बे शक मैं ज़मीन में नाइब बना रहा हूँ) की ख़िलाफ़त, وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ, (और हमने ज़मीन में वारिस बनाया) की विरासत, عَلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ, (मेरी उम्मत के उल्मा बनी इस्राइल के अम्बिया की मानिन्द हैं) की रूहानी ख़लअत, وَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन

नवाज़ने वाली और (रहमान الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى अर्श पर जल्वह गर है) की रहमानिय्यत का हुल्लाए रुहानी अत्ता करने वाली है और إِنَّ (अगर अल्लाह चाहे بِشَاءِ يَذُوبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ तुम्हें लैजाए और नई खिल्फत ले आए) की जिदते खिल्फत अत्ता कर के ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (फिर वह करीब आया और झुक पड़ा यहाँ तक कि वह दो कमानों के फास्लों के बराबर करीब आगया बल्कि उस से भी ज़्यादा नज़दीक) की कुर्बत अत्ता करने वाली है खुलासह यह कि यह मुबारक किताब وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (और अगर तुम अल्लाह की नेअमत शुमार करो तो तुम उसे शुमार ना कर सकोगे) की दाइमी अज़्ली व अब्दी नेअमत को शामिल किए हुए है।

ज़ेरे नज़र “दुआए इक्सीरे अअज़म” अस्माए इलाहिया व अस्माए मोहम्मद ﷺ के साथ हुरूफे मन्कूता व ग़ैर मन्कूता पर मुशतमिल है और जो हुरूफ़ जिन दिनों और जिन अनासिर

समदिय्यत पर काएम रखने वाली और وَكَفَى بِاللَّهِ (और अल्लाह काफी है شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ शहादत के लिए मोहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं) की किफ़ायत व शहादत के मक़ाम से शादकाम करने वाली है, नग़मए इलाही, इल्हामे रब्बानी, नेदाए रुही व कल्बी अत्ता करने वाली है (अल्लाह के सिवा لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ, कोई मअबूद नहीं मोहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं) के बहरे वहदत (मक़ामे वहदत का दरया) व कसरत में शराबोर करने वाली है إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ (बेशक नफ़्स बहुत ज़्यादा बुराई का हुक्म देने वाला है) की खुबासत से, وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ (और मैं मलामत करने वाले नफ़्स की क़सम खाता हूँ) की मलामत से निकाल कर بِأَنَّ النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةَ (ऐ नफ़से मुत्मइन्ना) की तम्मनिय्यत إِذْ جِئْتَ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (तू अपने रब की तरफ़ खुशी खुशी पलट) को रेज़ाइय्यत فَادْخُلِي (पस तू मेरे बंदों में दाख़िल हो जा और जन्नत में जा) की बशारत से

कब्रों हश्श की हर तकलीफों और अज़ाब से महफूज़ रहेगा उसका ज़ाहिर व बातिन ज़माने की तमाम ज़ाहिरी व बातिनी बीमारियों से अमन में होगा और जो शख्स “दुआए इक्सीरे अअज़म” में मज्कूर अय्याम से मोतअल्लिक दुआ को शब (रात) में ४० बार गोशए तन्हाई में पढ़ेगा तो उस पर बेशुमार इन्आमाते इलाहिया व करामाते रहमानिया का जुहूर होगा उसे अम्बिया और रसूलों की रुहानी व कल्बी शफ़कतें अता होंगी उसे अफ़रादे सिद्दीक व शोहदा व सोलहा और औलिया की कामिल दस्तगीरी हासिल होगी वह जिस के हक़ में दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ कबूल फ़रमाएगा वह मुस्तजाबुद्दअवात होगा अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेगा और उसे अपने दोस्तों की ज़ाहिरी व बातिनी मुलाकात का शरफ़ बख़्शेगा वह अर्शे मोअल्ला का मुशाहदा करने वाला होगा “दुआए इक्सीरे अअज़म” हर दिन व हर रात के फ़यूज़ व बरकात को शामिल किए हुए है इस में अस्राते कुन फ़यकून की हिक़मतें मौजूद हैं इस मुबारक किताब “दुआए

से मोतअल्लिक हैं उनको उन्हीं के साथ लिखा गया है और अय्याम (दिनों) से मोतअल्लिक हर हर्फ़ दुआ में ४० बार मज्कूर है मस्लन हर्फ़े “अलिफ़” आतिशी है और उसका दिन हफ़ता (सनीचर) है और यह ग़ैर मन्कूत है पस “अलिफ़” से मोतअल्लिक दुआ में हर्फ़े “अलिफ़” हुरूफ़े ग़ैरे मन्कूता के साथ ४० बार मज्कूर है और जैसे हर्फ़े “बा” बादी है, उसका दिन भी हफ़ता (सनीचर) है और यह मन्कूत है पस हर्फ़े ‘बा’ दुआ में ४० बार हुरूफ़े मन्कूता के साथ मज्कूर है इसी तरह दूसरे हुरूफ़े को समझें, जो शख्स इस “दुआए इक्सीरे अअज़म” को अय्याम से मोतअल्लिक रोज़ाना सुबह बअदे फ़जर और शाम को बअदे मग़रिब पढ़ने का मअमूल बनाएगा वह इन तमाम मज्कूरह फ़ज़ाइल व इन्आमात से माला माल होगा और वह तमाम सालों तमाम महीनों, हफ़्तों और तमाम दिनों और रातों की ख़ैरात व बरकात से नवाज़ा जाएगा, वह हर दिन हर रात की हर बुराई हर बला व मोसीबत से महफूज़ होगा और वह दह्रो

चारों अनासिर पर हुक्मराँ हैं गौया तमाम जिस्म इन २८ हुरूफ़ के ताबेअ हैं और तमाम हुरूफ़ किसी ना किसी सय्यारह (सितारा) से तअल्लुक रखते हैं इन सब की तफ़सील इस नक्शे में मुलाहज़ा फ़रमाएं:-

अब्जदे क़मरी

मअ सय्यारगान व अनासिर

सय्यारगान (सितारे)	अय्याम (दिन)	आतिशी (आग)	बादी (हवा)	आबी (पानी)	खाकी (मिट्टी)
जुहल	सनीचर	अलिफ़	बा	जीम	दाल
शम्स	इतवार	मीम	नून	सीन	ऐन
क़मर	सोमवार	ज़ाल	दाद	ज़ा	ग़ैन
मिरीख़	मंगल	ता	या	काफ़	लाम
ओतारिद	बुध	शीन	ता	सा	खा
मुशतरी	जुमेअरात	हा	वाव	ज़ा	हा
जोहरा	जुम्आ	फ़ा	साद	काफ़	रा

इस की तफ़सील यह है कि आतिश (आग) हरारत (गर्मी) और खुशकी की जामेअ है, हवा रुतूबत (तरी) और हरारत की जामेअ है,

इक्सीरे अअज़म” को मज्कूरह तरीके से पढ़ने वाला आलमे हुरूफ़ के रूहानी कलेमात के फ़ुयूज़ो बरकात का मुस्तहिक़ होगा और वह काइनात पर असर अन्दाज़ होने वाले हुरूफ़े जुल्मानी “बा, ता, सा, जीम, खा, दाल, ज़ाल, ज़ा, शीन, दाद, ज़ा, ग़ैन, फ़ा, वाव,” के तसल्लुत से आज़ाद होगा उसे हुरूफ़े नूरानिया “अलिफ़, हा, रा, सीन, साद, ता, ऐन, काफ़, काफ़, लाम, मीम, नून, हा, या” का फ़ैज़ मिलेगा और सारी काइनात में हुक्मत करने वाले हुरूफ़ के असरार और फ़ुयूज़ व बरकात से नवाज़ा जाएगा उस पर हर ख़ैर के दरवाज़े खोल दिये जाएंगे, और शर के दरवाज़े बंद कर दिये जाएंगे वह अल्लाह व रसूल का मुकर्रब बन्दा शुमार किया जाएगा और उसे हज़रते इलाहिया में दाइमी हुजूरी का शरफ़ हासिल होगा।

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَاللّٰهُ الشّٰكِرُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ -

जिस्में इन्सानी चार अनासिर से मोरक्कब है आब (पानी) खाक (मिट्टी) बाद (हवा) आतिश (आग) और हुरूफ़े हिजाइया के २८ हुरूफ़ इन

फ़ा, काफ़, काफ़, मीम, वाव, हा, या”।

सय्यिदी व मौलाई गौसे अज़म हज़रत शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी رحمۃ اللہ علیہ के रूहानी फ़रज़न्द और आप के रूहानी व कल्बी कामिल फ़ैज़ान से मोशरफ़ होने वाले हज़रते शैख़े अकबर सय्यिदी व मौलाई मोह्युद्दीन इब्नुल अरबी رحمۃ اللہ علیہ “फ़ुतूहाते मक्कीया” में फ़रमाते हैं कि गरमी और खुश्की आपस में मिलीं तो उनसे आग पैदा हुई, गर्मी और तरी आपस में मिलीं तो हवा बनी, सर्दी और तरी का मिलाप हुआ तो पानी बन गया, सर्दी और खुश्की एक दूसरे में ज़म हुई तो उससे मिट्टी पैदा हुई, तो देखें हवा आग और नमी से बनी है और यह नफ़्स है जो हयाते हिस्सिया है और यह पानी ज़मीन और आग हर चीज़ के लिए बेनफ़सेही मोह्रिक है और उस की हरारत अश्या को हरकत देती है उस के लिए ज़िन्दगी है जब कि हरकत ज़िन्दगी की निशानी है।

यह ४ अरकान उम्महाते अव्वल से पैदा होते हैं बेशक इन उम्महाते अव्वल से

और आब (पानी) रुतूबत और बुरूदत (सर्दी) की जामेअ है, और तुराब यअनी खाक युबूसत (खुश्की) और बुरूदत (सर्दी) की जामेअ है, इसी तरह चार तबाएअ हैं वह “सफ़रा, खून, बलगम, सौदा” हैं सफ़रा आतिश का मिज़ाज रखता है और खुश्क है, खून हवा का मिज़ाज रखता है और वह गरम और तर है, बलगम आब का मिज़ाज रखता है वह सर्द और तर है, और सौदा खाक का मिज़ाज रखता है वह सर्द और खुश्क है।

हुरूफ़े हिजाइया २८ हैं और क़मर की मनाज़िल भी २८ हैं चूँकि १४ मनाज़िल ज़मीन के ऊपर हैं और १४ नीचे हैं इसी वजह से यह १४ हुरूफ़ लामे तअरीफ़ के साथ मिलाए जाते हैं और वह १४ हुरूफ़ यह हैं “ता, सा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, दाद, ता, ज़ा, लाम, नून” इन्हें हुरूफ़े शम्सिया कहते हैं और १४ हुरूफ़ लामे तअरीफ़ के साथ ज़ाहिर हैं जिन्हें हुरूफ़े क़मरिया कहते हैं और वह हुरूफ़ यह हैं “अलिफ़, बा, जीम, हा, खा, ऐन, ग़ैन,

अकेली नहीं हो सकती है वाज़ेह रहे कि इन चार अनासिर को आपस में मिलाने में बड़े अज़ाबत हैं यह इस लिए कि गर्मी और सर्दी एक दूसरे की ज़िद हैं यह जमअ नहीं हो सकती और जब यह आपस में जमअ ना होंगी तो इनसे कोई चीज़ बरामद ना होगी इसी तरह तरी और खुशकी की भी कैफ़ियत है ज़िद की ज़िद दूसरी ज़िद की ज़िद से मिलती है।

“दुआए इक्सीरे अअज़म” इन जुम्ला अनासिर से मोतअल्लिक़ रुहानी हुरूफ़ की जामेअ है जो कि इन्सानी ज़ात को इन मोरक्कब अनासिर से मख़्लूक़ ज़ातों का ख़ैर अता करने वाली है और इन में मौजूद शर से बचाने वाली है, तमाम हुरूफ़ काइनात में मौजूद जुम्ला मख़्लूक़ात के ज़ाहिर व बातिन में अपने मरातिब के साथ शामिल हैं और हर एक के लिए रुहानी तौर से अलग अलग हुरूफ़ की शुमूलियत है जिस से उसके ज़ात व सिफ़ात की अलग शान ज़ाहिर होती है हत्ता कि हज़रते इलाहिया के लिए अर्बाबे सूफ़िया ने “अलिफ़, ज़ा, लाम”

मोरक्कबात को उनके ह़काइक़ अता होते हैं जो इस्तेज़ाज के बेग़ैर नहीं हैं, पस ह़रारत से गरम होना उसके ग़ैर से नहीं होगा ऐसे ही युबूसत से खुशकी और कब्ज़ का होना है, जब आग को देखा कि वह पानी को उस के मक़ाम से खुशक करती है तो ह़रारत के लिए यह तख़य्युल नहीं कि वह पानी के ग़हे में है बेशक आग ह़रारत और खुशकी का मोरक्कब है जैसा कि पहले उसकी ह़रारत से पानी खुशक होता है और युबूसत से उस में खुशकी वाक़ेअ होती है ऐसे ही नमी और बुरूदत भी है कि ठंडक के बेग़ैर उस में नमी नहीं आएगी लिहाज़ा ह़रारत खुशक करती है बुरूदत ठंडक देती है और नमी नरम करती है तो यह उम्महाते मुतनाफ़िरा सिवाए सूरत के कभी जमअ नहीं हो सकती और यह उस वक़्त होता है जब इनके ह़काइक़ यह तकाज़ा करें और इन में कोई जुज़ किसी तरह अकेला नहीं पाया जाएगा यह हमेशा दो की सूरत में होंगे या तो गर्मी या खुशकी होगी अकेली गर्मी नहीं पाई जाएगी, इस लिए कि वह

हैं इन में से एक आलमे वस्तु है और यह हमारे और हमारे अक्सर दोस्तों के नज़दीक आलमे जब्रत है और वह “ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, दाद, ज़ा, काफ़, काफ़, लाम, नून, या” हैं इन्हीं में से एक आलमे अस्फल है और यह आलमे मुल्को शहादत है और उसके हुरूफ़ “बा, मीम, वाव” हैं इन में आलमे जब्रतुल वस्तु और आलमे शहादत के दरमियान आलमे इस्तेज़ाज है और वह “फ़ा” है, इन में आलमे जब्रतुल वस्तु और आलमे मल्कूत के दरमियान आलमे इस्तेज़ाज है और वह “काफ़, काफ़” है और यह इस्तेज़ाजे मर्तबा है।

इन हुरूफ़ में से सिफ़ते रूहानिया में इस्तेज़ाज है और वह “साद, दाद, ता, ज़ा” हैं इन हुरूफ़ में से आलमे जब्रते अज़म और आलमे मल्कूत में इस्तेज़ाज है और वह “हा” है इन में से एक वह आलम है जो हमारे आलम के मुशाबह है वह दुखूल व खुरूज़ में हम से अलाहिदा है और यह “अलिफ़, वाव, या” हैं

मुख्तस किए हैं, जो शख्स इन से वाक्फ़ियत हासिल करले उसके लिए क्या ही अजीब हकाइक हैं इल्मुल हुरूफ़ ऐसा पाकीज़ा और बर्तार इल्म है जिसे दूसरे नहीं जानते बल्कि इस से जाहिलों के सीने घुटन और तंगी महसूस करते हैं, शैख़े अकबर मोहयुद्दीन इब्नुल अरबी رحمته الله फ़रमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हुरूफ़ मोखातब व मोकल्लफ़ उम्मतों में से एक उम्मत हैं और इनकी जिन्स से इन में रसूल हैं और उनकी हैसियत से उनके नाम हैं, हमारे तरीक़ से अहले कश्फ़ के सिवा उन की मअरिफ़त नहीं होती ज़बान व ब्यान की वज़ाहत के लिए आलमे हुरूफ़ “अफ़सहुल आलम” है इन हुरूफ़ की अक्साम हैं जैसा कि आलमे मअरूफ़ की उर्फ़ में किस्में हैं उन में से शैख़ अबू तालिब मक्की के नज़दीक आलमे जब्रत है और वह “हा, और हम्ज़ा(ि)” है हम उसका नाम आलमे अज़मत भी रखते हैं हुरूफ़ का एक आलम आलमे अअला आलमे मल्कूत है और वह “हा, खा, ऐन, ग़ैन”

मशहूरे ज़माना किताब “अलकहफु वर्रकीम” में फरमाते हैं यही वह हुरूफे नूरानिया हैं जो कुर्आने करीम की सूरतों के आगाज़ में हैं और यह हुरूफे मोकत्तअत कहलाते हैं।

बअज़ हुरूफ़ ख़ासुल ख़ास के खुलासे का खुसूसी अक्स हैं वह यह हैं “अलिफ़, बा, सा, दाल, रा, ज़ा, सीन, ता, ज़ा, फ़ा, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या” एक आलमे हुरूफ़ का आलम आलमे मुरस्सल है, और वह “जीम, हा, खा, काफ़” हैं, एक आलम ऐसा है जिसका एक तरफ़ अल्लाह के साथ मोतअल्लिक है और दूसरी तरफ़ मख़्लूक के साथ है और वह हुरूफ़ यह हैं “अलिफ़, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, वाव” यह हुरूफ़ कर्ख़बीयीन में आलमे तकदीस है।

तीन हुरूफ़ हज़रते इन्सान के लिए हैं वह “नून, साद, दाद,” हैं।

हुरूफ़ में से एक कुतुब है जिस तरह हम में से हैं और वह “अलिफ़” है हम में से कुतुब का मक़ाम हयाते कय्यूमिया है और यह उसका ख़ास मक़ाम है बेशक उसकी हिम्मत

यह सब हुरूफ़ के आलम हैं और हर आलम में उनकी जिन्स से एक रसूल है और एक शरीअत है जिस की वह पाबंदी करते हैं उनके यहाँ लताइफ़ भी हैं कसाफ़तें भी हैं, उन पर अग्रे खुदावन्दी का ख़िताब नाज़िल होता है, जब कि उनके लिए नेही नहीं है।

उनके अन्दर आम, ख़ास, ख़ासुल ख़्वास और अख़स्सुल ख़्वास के खुसूसी खुलासे के मरातिब हैं हुरूफ़ में से आम यह हैं “जीम, खा, दाल, शीन, दाद, ग़ैन,” और उन में से ख़ासुल ख़्वास हुरूफ़ यह हैं “अलिफ़, बा, ता, हा, ग़ैन, सीन, साद, ता, काफ़, काफ़, लाम, नून, वाव” और उन में अख़स्सुल ख़्वास “बा” है, हुरूफ़ में से बअज़ ख़ास वह हैं जो आम से एक दर्जा ऊपर हैं वह १४ हुरूफ़ हैं जो यह हैं “अलिफ़, हा, रा, सीन, साद, ता, ऐन, काफ़, काफ़, लाम, मीम, नून, हा, या” सय्यिदी व मौलाई हुज़ूर ग़ौसे अअज़म शैख़ अब्दुलकादिर जीलानी رحمته الله عليه के नवासे सय्यिदी व मौलाई आरिफ़ बिल्लाह शैख़ अब्दुल करीम अलजैली رحمته الله عليه अपनी

शैखे अकबर मोहयुदीन इब्नुल अरबी رحمته الله अपनी किताब “अलइन्सानुल कामिल” में फरमाते हैं कुतुब हर ज़माने में मौजूद होता है जिस पर सारे उमूर दौरा करते हैं पस हर एलाका में अल्लाह का वली होता है जिसके ज़रिए से अल्लाह उस एलाका की हिफ़ाज़त फ़रमाता है, पस वह वली उस एलाका का कुतुब होता है वह एलाका ख़्वाह काफ़िर का हो या मोमिन का हो, कुतुब के दर्जात हैं सारे आ़लम में कुतुबे वाहिद हमारे सरदार मोहम्मद ﷺ की रूहे पाक है सारे आ़लम में रूहे मोहम्मदी ﷺ के लिए मज़ाहिर हैं और उसके अकमल मज़हर कुतुबे ज़मान और अफ़राद में है, हर कुतुब के लिए रूह और सूरत ज़रूरी है जैसा कि ज़मीन ज़िन्दा रसूल के जिस्म के साथ कभी ख़ाली नहीं रही क्योंकि वह आ़लमे इन्सानी का कुतुब है अगरचेह हज़ारों रसूल हों उनमें से एक का होना ज़रूरी है और वही इमामे मक़सूद होता है, पस अल्लाह तबारक व तआ़ला ने अपने हबीब ﷺ की ज़ाहिरी ज़िन्दगी के बअ़द भी इस दारे दुनिया में ज़ाहिरी

तमाम आ़लम में सैर करती है, हुरूफ़ के २ इमाम हैं और वह “वाव, या” हैं हुरूफ़ के औताद ४ हैं “अलिफ़, नून, वाव, या” हुरूफ़ के अब्दाल ७ हैं और वह “अलिफ़, ता, काफ़, नून, वाव, हा, या” हैं। मलाइका के लिए यह हुरूफ़ हैं ‘बा, ता, सा, जीम, हा, ख़ा, दाल, ज़ाल, रा, त़ा, ज़ा, फ़ा, काफ़, काफ़ मीम, वाव, हा, या” और जिन्नात के लिए यह हुरूफ़ हैं ख़्वाह वह नूरी हों या नारी “जीम, काफ़, काफ़, वाव” और जानवरों के लिए यह हुरूफ़ हैं “दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, साद, दाद, ऐन, ग़ैन” नबातात के लिए यह हुरूफ़ हैं “अलिफ़, लाम, हा” और जमादात के लिए यह हुरूफ़ हैं “बा, ता, सा, हा, ख़ा, रा, त़ा, ज़ा, फ़ा, या” इस किताब में सिर्फ़ अस्सारे वुजूद के इशारात, झल्कियाँ और जल्वे दिखाना मक़सूद है अगर हुरूफ़ के अस्सार और उनसे निकलने वाले हक़ाइक़ के ब्यान का तफ़सीली दरवाज़ा खोल दिया जाए तो उनको लिखने के लिए ज़िन्दगियाँ कम पड़ जाएंगी।

रहेंगे अगरचेह वह नासिख शरीअत के साथ मबऊस नहीं हैं और ना ही वह शरीअते मोहम्मदी ﷺ के गैर पर आमिल होंगे लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते और इन चारों (हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम हज़रते इल्यास अलैहिस्सलाम हज़रते इद्रीस अलैहिस्सलाम और हज़रते ख़िद्र अलैहिस्सलाम) में से एक कुतुब है और यह दीन के घर के अर्कान हैं इन में से एक रुक्ने हज़रे अस्वद है और उन में से दो इमाम हैं और उन में से चौथा औताद है एक के ज़रिए अल्लाह ईमान की हिफ़ाज़त करता है और दूसरे के ज़रिए अल्लाह विलायत की हिफ़ाज़त फ़रमाता है और तीसरे के ज़रिए अल्लाह नुबुव्वत को महफूज़ रखता है और चौथे के ज़रिए अल्लाह रिसालत की हिफ़ाज़त फ़रमाता है और इन मज़्मूआ के साथ अल्लाह दीने हनीफ़ी की हिफ़ाज़त फ़रमाता है, इनकी मअरिफ़त सिर्फ़ अस्हाबे नौबा को है और अस्हाबे नौबा रसूल नहीं होते।

मअलूम होना चाहिए कि अस्हाबे

ज़िन्दगी वाले रसूल को उनके जिस्मों के साथ बाकी रखा है और वह ३ हैं उन में से इद्रीस अलैहिस्सलाम जो अपने जिस्म के साथ अभी बाकी हैं और अल्लाह ने उन्हें चौथे आस्मान पे रखा है और सातों आस्मान आलमे दुनिया से हैं लिहाज़ा वह दारे दुनिया का एक जुज़ है और ज़मीन में भी हज़रते इल्यास अलैहिस्सलाम और हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम को बाकी रखा है (क्योंकि हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम आख़िरी ज़माने में ज़मीन की तरफ़ उतरेंगे) और यह दोनों रसूलों में से हैं यह लोग दीने हनीफ़ी को काएम रखते हैं जिसको हमारे सरदार मोहम्मद ﷺ ले कर आए पस यह तीनों रसूल हैं जिन पर सबका इजमाअ है और रहे हज़रते ख़िद्र अलैहिस्सलाम तो उनके रसूल होने में लोगों का इख़्तिलाफ़ है लेकिन हमारे नज़्दीक नहीं पस यह सब के सब दारे दुनिया में अपने जिस्मों के साथ बाकी हैं और सब के सब औताद हैं, इन में से २ इमाम हैं और इन में से एक कुतुब है लिहाज़ा रसूल इस दारे दुनिया में क़ियामत तक

है अपराद के दिलों में अल्लाह का जलाल दाइमी होता है यह सब हक के सिवा कुछ मुशाहदा नहीं करते यह सब के सब उस कुतुब के हुक्म से खारिज हैं जो इमाम होता है पस अपरादे बशर दाइए कुतुब के तहत दाखिल नहीं होता और ना उस में कुछ तसरुफ़ होता है वह इस में यक्ता होता है।

कुतुबे इमाम ज़मीन में अल्लाह का खलीफ़ा होता है वह ज़माने का खलीफ़ा और नज़र व तजल्ली का महल होता है इसी से जाहिरे आलम और बातिने आलम पर आसार सादिर होते हैं वह जिस पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम करता है और जिस को सज़ा देता है अल्लाह उस पर अज़ाब करता है, उस पर अग्रे इलाही का मदार होता है नुबुव्वत व रिसालत के सिवा औरतें भी जुम्ता मरातिब की अहलियत रखती हैं क्योंकि अल्लाह ने इन्सान को शराफ़त वाला मुख़्तसर बनाया है उस में आलमे कबीर के मआनी जमअ़ फ़रमाया है और उसे आलमे कबीर में नुस्ख़ए जामिआ

मोहम्मदी ﷺ २ किस्म पर हैं कुछ अक्ताब वह हैं जो नबी करीम ﷺ की बेअसत के बअद हैं और कुछ अक्ताब आप ﷺ की बेअसत से पहले हैं पस वह अक्ताब जो नबी करीम ﷺ की बेअसत के पहले हुए वह सब के सब रसूल हैं और वह ३१३ हैं और रहे वह अक्ताब जो आप ﷺ की उम्मत में से आप ﷺ की बेअसत के बअद कियामत तक होंगे वह १२ कुतुब हैं और अस्हाबे ख़तम इन अक्ताब से खारिज हैं वह सब अस्हाबे अपराद हैं और यह १२ अक्ताब में से कोई एक हर ज़माने में रहेगा।

मअलूम होना चाहिए कि अपराद में से एक कुतुबे नाइब होता है अल्लाह तआला ने जब से अवाहि मल्किया मोहय्यमा की तख़लीक़ फ़रमाई उन्हें अल्लाह के सिवा किसी चीज़ का इल्म नहीं, उन्हें यह भी नहीं मअलूम कि अल्लाह ने उनके सिवा कुछ पैदा किया है और वह मलाइकए आलीन, कर्ूसबीयीन मोअतकेफीन मोकर्रबीन हैं सिज्दए आदम के ख़िताब में यह हज़रात खारिज थे इन्हें अक्ले अब्वल कहा जाता

जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है **وَأَنذَرْنَا قَوْمَهُ** (और यह कि जब अल्लाह का बंदा उसकी इबादत के लिए खड़ा होता है) यअनी मोहम्मद **ﷺ** पस अल्लाह ने आप का नाम अब्दुल्लाह रखा हर आलम में आप के मुख्तलिफ़ नाम हैं (चुनान्वेह आलमे बर्जख़ में आप **ﷺ** का नाम शम्सुद्दीन है और आलमे मल्कूत में आप **ﷺ** का नाम अहमद है और आलमे नासूत में मोहम्मद **ﷺ** है और अब्दी कुतुब के एअतिबार से आप **ﷺ** अब्दुल जामेअ के नाम से मुख्तस हैं) और इन तमाम नामों का जामेअ अब्दुल्लाह है और अइम्मा हर ज़माने में अब्दुलमलिक और अब्दुरब होते हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कि उनका नाम अब्दुशशकूर है और दाऊद अलैहिस्सलाम का इस्मे ख़ास अब्दुलमलिक है, ज़मीन में अल्लाह का ख़लीफ़ा हमेशा वही होगा जिसे कुआने पाक के इत्तेदाई हुरूफ़ के मआनी मअलूम हों यही वह औलिया हैं जिनके बारे में नबी करीम **ﷺ** ने इर्शाद फ़रमाया **إِذَا رُؤُواذْكَرَ اللَّهُ** (जब लोग उन्हें देखते हैं तो उन्हें अल्लाह याद

करार दिया है चुनान्वेह अल्लाह के रसूल मोहम्मद **ﷺ** फ़रमाते हैं **إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ** (बेशक अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर बनाया है) इस लिए कि इन्साने कामिल सूरते कामिला पर है उसके लिए सारे आलम में अल्लाह पाक की जानिब से ख़िलाफ़त व नियाबत सहीह है और इन्सान में औरत भी शामिल है जैसा कि अल्लाह के रसूल **ﷺ** ने मर्दों के कमाल की गवाही के साथ औरतों के कमाल की भी गवाही दी है चुनान्वेह आप **ﷺ** फ़रमाते हैं **كَمَلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرُونَ وَكَمَلَتْ مِنَ النِّسَاءِ** (बहुत से मर्द कामिल हैं और बहुत सी औरतें भी कामिल हैं जैसे मरयम बिनते इम्रान और जौजए फ़िरऔन बीबी आसिया)।

हर शख़्स के लिए इस्मे इलाही की तरफ़ एक निस्बत है और हर वली के लिए एक इस्मे इलाही होता है जिसको ख़ास कर के उसको उसी नाम से बुलाया जाता है अगरचेह उसका नाम कुछ भी हो पस कुतुब अब्दुल्लाह होता है

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعائے اکسیر اعظم

یکشنبہ (اتوار)

(م) آتشی

صَلَاةُ الْبَيْمِ الْأَرْبَعِينَ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْمُحْيِي السَّلَامِ ۝ اللَّهُمَّ مَلِكِ
 الْمُلْكِ صَلِّ وَسَلِّمْ وَكَرِّمْ سَرْمَدًا دَائِمًا عَلَى
 مَوْلَائِي صَدَقَ أَمْرُ اللَّهِ أَيَّ الْإِسْلَامِ مَعَ عَدَدِ
 الْهَادِي وَالْوَدُودِ حَمْدُهُ لَكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ

آاتا है) यह वह लोग हैं जिन्हें देख कर अल्लाह याद आता है नबी करीम ﷺ का फ़रमान इन्हीं औलियाए किराम के साथ है जिन्हें कुर्आने करीम के इब्तेदाई हुरूफ़ के मअानी ग़ैबुल ग़ैब से हासिल होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हक़ समझने, हक़ बोलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन!

(अलइन्सानुल कामिल मुलख़वसन)

अल्लाहुल हादी रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि वह तमाम इन्स व जिन्नात को “दुआए इक्सीरे अअज़म” पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और उसके ज़ाहिरी व बातिनी हुरूफ़ व कलेमात की बरकतों से सब के ज़ाहिर व बातिन को माला माल फ़रमाए। आमीन!

بِحَقِّي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى
 أَشْرَفِ الْمَخْلُوقَاتِ وَمَبْدَأِ الْمَوْجُودَاتِ وَسَيِّدِ الْأَوْلِيَيْنِ
 وَالْآخِرِينَ وَرَحْمَةِ لِّلْعَالَمِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ
 وَكُلِّ أُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ دَائِمًا أَبَدًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ
 لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى
 الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

وَهُوَ الْكَرَّمُ لِكُلِّ الْعَالَمِ وَرُحْمَكَ الدَّائِمِي
 وَمَلَكَهُ اللَّهُ دَارَ السَّلَامِ وَأَعْلَى اللَّهُ رَهْطَهُ عَلَى
 كُلِّ الْأَمَمِ وَأَصْلِ الْمَعْصُومِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ
 اللَّهِ وَعَلَى وَالِدِهِ وَأُمِّهِ وَإِلَيْهِ وَخَوَارِجِي رَسُولِ
 اللَّهِ وَوَحْيِي الْإِسْلَامِ وَوَالِي الْإِسْلَامِ وَمَوْلَائِي
 أَحْمَدَ وَإِلَى اللَّهِ وَخَوَارِجِي وَإِلَى اللَّهِ وَإِلَيْهِ وَكُلِّ
 الْمَلَأِكِ وَأَمَمِ رَسُولِ اللَّهِ كُلِّ الْحَالِ سَلَامًا
 أَعْطِ مَعَهُ كُلَّ رَهْطِ رَسُولِكَ لِبَاعِ الطَّاهِرِ
 وَالْهَادِي وَالْوَدُودِ

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو زندہ رکھنے والا سلامتی دینے والا ہے، اے ہمارے اللہ تمام ملکوں کے بادشاہ تو خوب خوب سردی دائمی درود و سلام اور کرم نازل فرما ہمارے اس مولیٰ پر جنہوں نے اللہ کے امر یعنی اسلام کو علی الاعلان ظاہر فرمایا اللہ کے اسم پاک ہادی اور ودود

کے عدد (۴۰) کے مطابق جن کی حمد ہر حال میں تیرے ہی لئے ہے اور وہ سارے عالم کے لئے سراپا کرم ہیں اور تیری دائمی رحمت ہیں تو نے انہیں جنت کا مالک بنایا ہے اور ان کی امت کو ساری امتوں پر فضیلت بخشی ہے (اور درود و سلام نازل ہو) تمام معصوموں کی اصل اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اور اصحاب پر اور اسلام کے زندہ کرنے والے شیخ عبدالقادر جیلانی پر اور اسلام کے مددگار خواجہ معین الدین پر اور سید مخدوم احمد ولی اللہ پر آپ کے تمام روحانی اصحاب پر اور آل پر، تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر ہر دم، ایسا درود کہ جس کی برکت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اسم طاہر و ہادی اور ودود کا فیض عطا فرما۔

تَرْجَمَا: اَللّٰہ کے نام سے شُرُوعِ جُو جِنْدَا رِخْنِے وَاَلَا سَلَامَتِي دِےنِے وَاَلَا ہِے، اے ہمارے اللہ تمام مُلْكُوں كِے بَادشَاه تُو خُوْب خُوْب سَرْمَدِي دَاِئِمِي دُرُوْدُو سَلَام اُوْر كَرَم نَاجِل ل فَرْمَا ہمارے اُس مَوِلَا پَر جِنھُوں نِے اَللّٰہ كِے اَمْر ي اَنْبِي اِسْلَام كُو اَعْلَان ظَاہِر فرمایا اللہ کے اسم پاک ہادی اور ودود

(ن) بادی

صَلَوَةُ النُّونِ الْأَرْبَعِينَ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ نُورِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ يَا نُورُ
 تَنَوَّرْتَ بِالنُّورِ وَالنُّورُ فِي نُورِ نُورِكَ يَا نُورُ أَنَا
 فِي الظُّلُمَاتِ نُورٌ قَلْبِي فِي مَحَبَّتِكَ وَحَمْدِكَ
 وَشُكْرِكَ وَغَطِّتَنِي فِي نُورِكَ الْعَظِيمِ لِأَنَّ
 اتَّخَفْتُ مِنْ كُلِّ شَرِّ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
 وَالْبَلِيَّاتِ وَالْأَمْرَاضِ وَمَعْصِيَّتِكَ
 وَحَبِيبِكَ بِحَقِّ نُورٍ مِنْ نُورِ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا نَافِعُ
 يَا مُنْعِمُ أَنَا السَّائِلُ أَعْطِنِي مَنفَعَةً فِي الدَّهْرِ
 وَالْقَبْرِ وَالْخَشْرِ وَأَنْعِمْنِي بِكَمَالِ الْإِسْلَامِ

फ़रमाया अल्लाह के इस्मे पाक हादी और वदूद
 के अदद(४०) के मुताबिक जिन की हम्द हर
 हाल में तेरे ही लिए है और वह सारे अलम
 के लिए सरापा करम हैं और तेरी दाएमी रहमत
 हैं तूने उन्हें जन्नत का मालिक बनाया है और
 उनकी उम्मत को सारी उम्मतों पर फज़ीलत
 बख़शी है (और दुखदो सलाम नाज़िल हो) तमाम
 मअसूमों की अस्ल अल्लाह के रसूल मोहम्मद
 ﷺ पर और आप ﷺ के वालिद पर, आप
 ﷺ की वालिदा पर और आप ﷺ की आल व
 औलाद और अस्हाब पर और इस्लाम के जिन्दा
 करने वाले शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी पर और
 इसलाम के मददगार ख्वाजा मोईनुद्दीन पर और
 सय्यिद मख़दूम अहमद वलीयुल्लाह पर आप के
 तमाम रुहानी अस्हाब पर और आल पर, तमाम
 फिरिश्तों और तमाम उम्मतियों पर हर दम, ऐसा
 दुखद कि जिसकी बरकत से अपने हबीब ﷺ की
 सारी उम्मत को इस्मे ताहिर व हादी और वदूद
 का फ़ैज़ अता फ़रमा।

وَأَجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ لَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بِحَقِّ خَاتَمِ
 النَّبِيِّينَ اللَّهُمَّ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ
 صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مَوْلَائِي نُورِكَ الْأَصْلِ
 وَنَبِيِّكَ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ
 وَعَلَىٰ وَالِدَيْهِ وَآلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَكُلِّ
 الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ
 وَالْمَلَائِكِ وَالْأُمَّمِ كُلِّ الْحَالِ صَلَوَةٌ تَرزُقُ بِهَا
 أُمَّةَ حَبِيبِكَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 وَالشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو آسمان و زمین کا نور ہے، اے نور تو
 نور سے روشن ہے اور نور تیرے نور کے نور میں ہے، اے

نور میں اندھیریوں میں ہوں تو میرے دل کو اپنی محبت میں اور اپنے حمد
 و شکر میں روشن فرما دے اور مجھے اپنے اس نور عظیم سے ڈھانپ لے
 تاکہ میں تمام جن و انس کے شرور سے اور تمام بلاؤں اور مرضوں سے
 تیری اور تیرے حبیب کی نافرمانی سے محفوظ ہو جاؤں، نور اللہ کے نور
 کے صدقے میں، اے ہمارے اللہ، اے نفع دینے والے، اے انعام
 فرمانے والے میں سائل ہوں تو مجھے دہر و قبر و حشر میں نفع عطا فرما اور مجھ
 پر انعام فرما کمال اسلام (ایمان) کے ساتھ اور مجھے اپنے ان نیک
 بندوں میں سے بنادے جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم خاتم
 النبیین کے صدقے میں، اے ہمارے اللہ کیا ہی بہتر مولیٰ ہے اور کیا
 ہی خوب مددگار ہے تو خوب خوب درود و سلام نازل فرما میرے مولیٰ
 اپنے اصل نور، اپنے اول و آخر نبی اللہ کے رسول محمد ﷺ پر اور آپ
 ﷺ کے والدین پر، اور آپ ﷺ کی آل و اولاد و اہل بیت
 پر اور اصحاب پر اور تمام انبیاء و رسولوں پر، تمام شہداء اور اولیاء پر، تمام
 فرشتوں اور تمام امتیوں پر ہر دم، ایسا درود کہ جس کی برکت سے اپنے
 حبیب کی ساری امت کو حسن اخلاق عطا فرما اور تمام تعریف اللہ ہی کے
 لئے ہے اور تمام شکر اللہ ہی کے لئے ہے ہر دم۔

मोहम्मद ﷺ पर आप ﷺ के वालिदेन पर, आप ﷺ की आल व औलाद व अहले बैत पर और अस्हाब पर और तमाम अम्बिया व रसूलों पर, तमाम शोहदा और औलिया पर और तमाम फ़िरिश्तों और तमाम उम्मतियों पर, हर दम, ऐसा दुखद कि जिसकी बरकत से अपने हबीब की सारी उम्मत को हुस्ने अख़्लाक अता फ़रमा और तमाम तअरीफ अल्लाह ही के लिए है और तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए है हर दम।

(स) आबी

صَلَاةُ السِّينِ الْأَرْبَعِينَ

بِدُونِ النُّقْطَةِ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْوَاسِعِ السَّلَامِ ○ أَيْ سَلَامٌ
سَلَامٌ اللَّهُ وَالسَّلَامُ مَعَ سَلَامِ سَلَامِكَ أَيْ

तर्जमा: अल्लाह के नाम से शुरूअ जो आस्मान व ज़मीन का नूर है, ऐ नूर तू नूर से रौशन है और नूर तेरे नूर के नूर में है, ऐ नूर मैं अंधेरियों में हूँ तू मेरे दिल को अपनी मोहब्बत में और अपने हम्द व शुक्र में रौशन फ़रमा दे और मुझे अपने उस नूरे अज़ीम से ढाँपले ताकि मैं तमाम जिन्न व इन्स के शरों से और तमाम बलाओं और मर्जों से तेरी और तेरे हबीब की नाफ़रमानी से महफूज़ हो जाऊँ, नूख़ल्लाह के नूर के सदके में, ऐ हमारे अल्लाह, ऐ नफ़अ देने वाले, ऐ इन्आम फ़रमाने वाले, मैं साइल हूँ तू मुझे दहो कब्रो हश्म में नफ़अ अता फ़रमा और मुझ पर इन्आम फ़रमा कमाले इस्लाम (ईमान) के साथ और मुझे अपने उन नेक बंदों में से बनादे जिन्हें न कोई ख़ौफ़ है और न कोई ग़म ख़ातमुन्नबीयीन के सदके में, ऐ हमारे अल्लाह क्या ही बेहतर मौला है और क्या ही ख़ूब मददगार है तू ख़ूब ख़ूब दुख़दो सलाम नाज़िल फ़रमा मेरे मौला अपने अस्ल नूर, अपने अव्वल व आख़िर नबी अल्लाह के रसूल

سَلَّمَ صَلَّى وَسَلَّمَ سَلْبًا سَرْمَدًا عَلَى مَوْلَائِي
 أَسْرَارِ كُلِّ الْعَالَمِ وَمَسْعُودِكَ الْأَعْلَى
 وَإِمَامِ كُلِّ الرُّسُلِ وَسَلَّمَ كُلِّ الْعَالَمِ وَلَمَعَ
 إِسْلَامِكَ أَمْرَ اللَّهِ كُلِّ الْمُسْلِمِ صَلُّوا
 وَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِهِ وَرَسُولِ كُلِّ الْمُسْلِمِ
 وَالرَّسُولِ الْمَبْرَاحِمِ وَسِرِّ أَصْلِ الْإِسْلَامِ
 وَمَسْئُولِ اللَّحْدِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى
 وَالِدَيْهِ وَأُمَّهِ وَإِلَيْهِ وَالْمَوْلَى عَلِيِّ وَوَلَدَيْهِ عَلِيِّ وَ
 أُمَّهَاتِهِ وَحُجَّي الْإِسْلَامِ وَإِلَيْهِ وَوَالِي الْإِسْلَامِ
 وَإِلَيْهِ وَمَوْلَائِي أَحْمَدَ وَرَبِّي اللَّهِ وَخَوَارِجِي وَرَبِّي اللَّهِ
 وَإِلَيْهِ وَكُلِّ الْمَلَائِكِ وَأُمَمِ رَسُولِ اللَّهِ كُلِّ
 الْحَالِ سَلْبًا مَعَهُ أَعْطَى كُلَّ رَهْطِ رَسُولِكَ

سَلَّمَ الْإِسْلَامِ وَأَوْدَعَ السَّلْمَ سَمَاءً وَمَا
 سِوَاهُ مَعَ وَدِّكَ وَأَعْطَى حَوْلَ أَرْوَاعِ رَهْطِ
 رَسُولِ اللَّهِ سُطُوعَ الْإِسْلَامِ مَعَ حَمْدِكَ كُلِّ
 الْحَالِ ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو کشادگی والا سلامتی دینے والا
 ہے، اے سلامتی دینے والے تو نے خوب سلامتی دی اور تمام سلامتی
 تیری سلامتی کی سلامتی میں ہے، اے سلامتی دینے والے تو خوب
 خوب سردی درود و سلام نازل فرما میرے مولی سارے عالم کے
 راز، تیرے بلند نیک بخت، تمام رسولوں کے امام، سارے عالم کی
 سلامتی، تیرے اسلام کے نور، کہ اللہ نے تمام ایمان والوں کو حکم فرمایا
 کہ اس کے رسول پر خوب خوب درود و سلام بھیجو، تمام اسلام والوں
 کے رسول، رحمت والے رسول، اسلام کی اصل کے راز، قبر میں سوال
 کئے جانے والے اللہ کے رسول محمد ﷺ پر اور آپ ﷺ کے
 والد پر، اور آپ ﷺ کی والدہ پر، آپ ﷺ کی آل

عَلَيْكَ وَلَبَّعِكَ وَسَطِعِكَ وَالِدَاعِي إِلَى
 صِرَاطِكَ وَطَوْعِ أَمْرِكَ وَوُسْعِ عُلُومِكَ
 وَحِكْمِكَ وَعَدْلِ عَالَمِكَ وَعِظَاءِ الْإِنْسَانِ وَ
 دُعَاءِ مِعْبَارِ الْحَرَمِ وَلَبَّعِ كُلِّ عَالَمِكَ وَ
 مُصْعِدِ عُلُوسِ سِرِّكَ وَعَالِمِ مَا صَارَ وَمَا
 صَارَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى وَالِدِيهِ وَأُمَّهِ وَآلِهِ
 وَالْمَوْلَى عَلِيٍّ وَوَلَدَتِي عَلِيٍّ وَ أُمَّهَاتِي وَهَيْ
 الْإِسْلَامِ وَآلِهِ وَوَالِي الْإِسْلَامِ وَآلِهِ
 وَمَوْلَانِي أَحْمَدَ وَآلِي اللَّهِ وَخَوَارِجِي وَآلِي اللَّهِ وَآلِهِ
 وَكُلِّ الْمَلَائِكَةِ وَأُمَمِ رَسُولِ اللَّهِ كُلِّ الْحَالِ
 سَلَامًا مَعَهُ أَدِمُ رَحْمَتِكَ عَلَى كُلِّ رَهْطِ رَسُولِ
 اللَّهِ مَعَ وَدِّكَ ○

में सलामती अता फरमा अपनी मोहब्बत के साथ
 और अपने हबीब ﷺ की उम्मतियों के दिलों में
 इस्लाम का नूर अता फरमा अपनी हम्द के साथ
 हर दमा।

(ع) خاکی

صَلَاةُ الْعَيْنِ الْأَرْبَعِينَ

بِدُونِ النُّقْطَةِ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْمُعْطَى الْعَلِيِّ ○ اللَّهُمَّ الْحَكْمُ
 الْعَدْلُ الْعُلُوُّ الْعَلَامُ عَالِمُ السِّرِّ الْأَعْلَى
 صَلِّ وَسَلِّمْ سَلَامًا عَلُوًّا دَائِمًا عَلَى مَوْلَانِي
 عَلِيٍّ وَعُلُوكَ وَعَدْلِكَ وَسَعْدِكَ وَوَأَسِجِ
 رَحْمَتِكَ وَوَدِّكَ الْعَالَمِ وَاللَّا عَالِمِ أَصْلِ سِرِّ

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو عطا فرمانے والا بلندی والا ہے، اے ہمارے اللہ فیصلہ فرمانے والے، انصاف فرمانے والے، بلندی والے، خوب جاننے والے، غیب کے جاننے والے، نہایت بلندی والے تو خوب خوب دائمی بلندی والا درود و سلام نازل فرما میرے مولیٰ اپنے علم، اپنی بلندی، اپنے انصاف، نہایت نیک، تیری رحمت کی کشادگی والے، تیرے مکان و لامکان کی محبت، تیرے علم کے اصل راز کے جاننے والے، تیرے نور، تیری روشنی، تیرے راستے کی طرف بلانے والے، تیرے حکم کی اطاعت، تیرے علموں اور حکمتوں کی وسعت، تیرے عالم میں انصاف کرنے والے، تیری نعمتوں کی عطا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، تیرے سارے جہان کے نور، تیرے رازوں کی بلندی پر پہنچنے والے، جو ہوا اور جو نہیں ہوا سب کے جاننے والے اللہ کے رسول محمد ﷺ پر اور آپ ﷺ کے والد پر، اور آپ ﷺ کی والدہ پر، آپ ﷺ کی آل و اولاد پر اور سیدی مولیٰ علی مرتضیٰ پر اور مولیٰ علی کے دونوں لاڈلوں امام حسن اور امام حسین پر اور سیدہ فاطمہ زہرا پر اور اسلام کے

زندہ کرنے والے شیخ عبدالقادر جیلانی پر، آپ کی آل پر اور اسلام کے مددگار خواجہ معین الدین پر اور آپ کی آل پر اور سید مخدوم احمد ولی اللہ پر آپ کے تمام روحانی اصحاب پر اور آل پر تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر ہر دم ایسا درود کہ جس کی برکت سے اپنے حبیب ﷺ کی ساری امت پر اپنی رحمت کو دائمی فرمادے اپنی محبت کے ساتھ۔

تَرْجَمًا: اَللّٰهُ كے نام سے शुरू जो अता फरमाने वाला बुलंदी वाला है, ऐ हमारे अल्लाह फैसला फरमाने वाले, इन्साफ़ फरमाने वाले, बुलंदी वाले, खूब जानने वाले, ग़ैब के जानने वाले, निहायत बुलंदी वाले तू खूब खूब दाइमी बुलंदी वाला दुरूदो सलाम नाज़िल फरमा मेरे मौला अपने इल्म, अपनी बुलंदी, अपने इन्साफ़, निहायत नेक, तेरी रहमत की कुशादगी वाले, तेरे मकान व लामकाँ की मोहब्बत, तेरे इल्म के अस्ले राज़ के जानने वाले, तेरे नूर, तेरी रौशनी, तेरे रास्ते की तरफ़ बुलाने वाले, तेरे हुक्म की एताअत, तेरे इल्मों और हिकमतों की वुस्अत, तेरे आलम में इन्साफ़ करने वाले, तेरी

دوشنبه (پير)

(ز) آتشی

صَلْوَةُ الذَّالِ الْأَرْبَعِينَ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ○ اللَّهُمَّ
 أَسْأَلُكَ يَا مُعِزُّ يَا مُدِلُّ يَا مُعِيدُ يَا ذَا الْقُوَّةِ
 الْمَتِينِ يَا ذَا الْمَعَارِجِ وَالطُّوْلِ يَا ذَا الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ يَا غَافِرَ الذَّنْبِ يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ
 يَا نَذِيرُ يَا مُنْذِرُ يَا مُذَكِّرُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ
 وَتُسَلِّمَ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَوَّلِ ذَا كِرٍ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ وَذِكْرُكَ وَذَكَارِكَ وَشَكَارِكَ وَذِي قُوَّةِ

नेअमतों की अता, हज़रते इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, तेरे सारे जहान के नूर, तेरे राजों की बुलंदी पर पहुँचने वाले, जो हुवा और जो नहीं हुवा सब के जानने वाले अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर और आप ﷺ के वालिद पर, आप ﷺ की वालिदा पर और आप ﷺ की आल व औलाद पर और सय्यिदी मौला अली मुर्तज़ा पर और मौला अली के दोनों लाडलों इमामे हसन और इमामे हुसैन पर और सय्यिदा फ़ातिमा ज़हरा पर और इस्लाम के ज़िन्दा करने वाले शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी पर, आप की आल पर और इस्लाम के मददगार ख़्वाजा मोईनुद्दीन पर और आप की आल पर और सय्यिद मख़दूम अहमद वलीयुल्लाह पर आप के तमाम रूहानी अस्हाब पर और आल पर, तमाम फ़िरिशतों और तमाम उम्मतियों पर हर दम, ऐसा दुखद कि जिसकी बरकत से अपने हबीब ﷺ की सारी उम्मत पर अपनी रहमत को दाइमी फ़रमादे अपनी मोहब्बत के साथ।

وَذِي حُرْمَةٍ وَذِي الْعِزِّ الشَّامِخِ وَذِي الْمَجْدِ
 وَالْكَرَمِ وَالنُّورِ الَّذِي لَا يُطْفَأُ وَالَّذِي تَعَجُّزُ
 عَنْ كُنْهِهِ الْعِبَارَاتُ وَالَّذِي خَلَقْتَهُ مِنْ
 نُورِكَ وَخَلَقْتَ مِنْهُ جَمِيعَ مَخْلُوقَاتِكَ
 وَمُبَيَّنِ اسْرَارِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَمَطَّلِعِ
 اسْرَارِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْمُتَلَدِّذِ
 بِمُشَاهَدَتِكَ بِكُلِّ شَأْنٍ جَدِيدٍ وَذِي الْمَجْدِ
 الْبَادِخِ وَالْمُنْقِدِ مِنَ الضَّلَالِ وَنَافِذِ
 حُكْمِكَ وَ الْجَهْبِذِ وَ الْمَعَادِ وَالْمَلَاذِ وَذِي
 الْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ وَ ذِي الْخُلُقِ الْعَظِيمِ وَذِي
 صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ وَذِي النَّفْعِ الْعَظِيمِ وَذِي
 الْبَرَاهِينِ السَّاطِعَةِ وَالَّذِي بَشَّرَ بِهِ الْكَلِيمُ

وَالْمَسِيحُ وَذِي الْعِزِّ الْمُحَقَّقِ وَشَفِيعِ
 الْمُنْذِبِينَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى وَالِدِيهِ
 وَإِلَيْهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَكُلِّ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالرُّسُلِ وَالشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْمَلَائِكِ
 وَالْأَمَمِ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ كُلِّ
 الْحَالِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو عظمت و بزرگی والا ہے، اے
 ہمارے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے عزت دینے والے
 ، اے ذلت دینے والے، اے پناہ دینے والے، اے زبردست
 قوت والے، اے عروج و فضیلت والے، اے عرشِ عظیم والے،
 اے گناہ بخشنے والے، اے گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والے، اے
 ڈرانے والے، اے ڈرسانے والے، اے یاد دلانے والے میں تجھ
 سے سوال کرتا ہوں کہ تو خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے
 سردار ہمارے مولیٰ، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والے،

(ض) بادی

صَلْوَةُ الصَّادِ الْأَرْبَعِينَ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْخَافِضِ الرَّافِعِ ○ اللَّهُمَّ
 أَسْأَلُكَ يَا صَارُ يَا نَافِعُ يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ الْحَمْدُ
 اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
 نَسْتَعِينُ ○ بَدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِذَا
 قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
 أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَي سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا رِضْوَانِكَ وَرِضَائِكَ وَقَضَائِكَ
 وَفَضْلِكَ وَأَفْضَلِ أَنْبِيَائِكَ وَأَفْضَلِ

करने वाले, ज्ञात व सिफात के तुलूअ होने की जगह, तेरे मुशाहदे से हर नई शान के साथ लज्जत हासिल करने वाले, अजीम बुजुर्गी वाले, गुम्रही से निकालने वाले, तेरे हुक्म को जारी करने वाले, निहायत खबरदार, पनाह गाह, जाए हिफाजत, (महफूज जगह) यकीनी दलील वाले, अजीम अख्लाक वाले, सीधे रास्ते वाले, बड़े नफअ वाले, रौशन दलील वाले वह ज्ञात जिसकी बशारत हज़रते मूसा व हज़रते ईसा ने दी, साबित इज्जत वाले, गुनहगारों की सिफारिश करने वाले, अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर और आप ﷺ के वालिदैन पर, और आप ﷺ की आल व अहले बैत और अस्हाब पर तमाम अम्बिया व रसूलों पर, तमाम शोहदा और औलिया पर, तमाम फ़िरिश्तों और तमाम उम्मतियों पर, तमाम आस्मान व ज़मीन वालों में से हर दम तेरी तमाम मअलूम तअदाद के मुताबिक।

فَخَلُوقَاتِكَ وَأَفْضَلِ قَائِمٍ بِحَقِّكَ وَأَفْضَلِ
 ذِكْرِكَ وَسَيِّدِ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمُوتِكَ
 وَتُورِكَ الْوَاضِحِ وَفَيْضِكَ الْجَامِعِ وَفَضْلِكَ
 الْأَعَمِّ وَضُوءِكَ الدَّائِمِيِّ وَصَاحِبِ حَوْضِ
 الْكَوْثَرِ وَأَوْضِحِ النَّاسِ بَيَانًا وَأَوْضِحِ النَّاسِ
 بُرْهَانًا وَأَفْضَلِ النَّاسِ بَرًّا وَأَفْضَلِ النَّاسِ
 رَحْمًا وَكَرَمًا وَأَفْضَلِ النَّاسِ حَمْدًا وَشُكْرًا
 وَأَفْضَلِ النَّاسِ خَيْرًا وَأَفْضَلِ النَّاسِ إِلَّا
 وَأَصْحَابًا وَأَعْوَانًا وَجَوْهَرٍ كُلِّ وَوَلِيٍّ وَضِيَاءِهِ
 وَالْمُخْرِجِ مِنَ الضَّلَالِ وَدَاعِ الْأَرْوَاحِ إِلَى
 حَضْرَةِ الْقُدُّوسِ وَسَيِّدِ الْفَاضِلِينَ وَسَيِّدِ
 الْأَفْضَلِينَ وَسَيِّدِ الْمُتَوَاضِعِينَ وَصَاحِبِ

الْفَضِيلَةَ وَرَسُولِ السَّبُوتِ وَالْأَرْضِ وَ
 مُبْتَدَأِ الْفَضْلِ وَمُنْتَهَاهُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ
 وَعَلَى وَالِدَيْهِ وَالْأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَكُلِّ
 الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ
 وَالْمَلَائِكِ وَالْأُمَّمِ مِنْ أَهْلِ السَّبُوتِ
 وَالْأَرْضِينَ أَجْمَعِينَ كُلِّ الْحَالِ بِعَدَدِ كُلِّ
 مَعْلُومٍ لَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِنَّا
 ابْتِلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ
 تَفْضِيلًا ○ وَأَسْئَلُكَ اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
 عَلَيْهِمْ ○ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
 وَلَا الضَّالِّينَ ○ آمين ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو پست کرنے والا بلند کرنے والا ہے، اے ہمارے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے نقصان دینے والے، اے نفع دینے والے، ہر چیز پر قبضہ کرنے والے، کشادہ کرنے والے، تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، حساب کے دن کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، آسمان وزمین کو بے نمونہ کے بنانے والا ہے جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف اس سے کہتا ہے ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار ہمارے مولیٰ اپنی خوشنودی اپنی رضا اور تیرا فیصلہ، تیرا فضل، تیرے تمام انبیاء میں افضل، تیری تمام مخلوقوں میں افضل، تیرے حق کو قائم کرنے میں افضل، تیرے ذکر میں افضل، تیرے زمین و آسمان والوں کے سردار، تیرا واضح نور، تیرا جامع فیض، سب سے زیادہ عام فضل، تیری دائمی روشنی، حوض کوثر والے، لوگوں میں سب سے واضح بیان کے اعتبار سے، لوگوں میں سب سے واضح دلیل کے اعتبار سے، لوگوں میں سب سے افضل نیکی کے اعتبار سے، لوگوں میں سب سے افضل رحم و کرم

کے اعتبار سے، لوگوں میں سب سے افضل حمد و شکر کے اعتبار سے، لوگوں میں سب سے افضل بھلائی کے اعتبار سے اور لوگوں میں سب سے افضل آل و اولاد اور اصحاب و مددگار کے اعتبار سے، ہر ولی کے جوہر اور اس کی روشنی، گم رہی سے نکالنے والے، روحوں کو قدوس کی بارگاہ میں بلانے والے، فضل والوں کے سردار، افضل لوگوں کے سردار، تواضع (عاجزی) اختیار کرنے والوں کے سردار، فضیلت والے، آسمان وزمین کے رسول، اور فضل کی ابتداء و انتہا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اہل بیت اور اصحاب پر تمام انبیاء و رسولوں پر، تمام شہداء اور اولیاء پر، تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر تمام آسمان وزمین والوں میں سے ہر دم تیری تمام معلوم تعداد کے مطابق تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے اس حال سے بچایا جس میں تمہیں مبتلا کیا اور اس نے اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت بخشی اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے ہمارے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ان کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوؤں کا تو قبول فرما۔

अफ़ज़ल, तेरे ज़मीन व आस्मान वालों के सरदार, तेरा वाज़ेह नूर, तेरा जामेअ फ़ैज़, सब से ज़्यादा आम फ़ज़ल, तेरी दाइमी रौशनी, हौज़े कौसर वाले, लोगों में सब से वाज़ेह ब्यान के एअ़तेबार से, लोगों में सब से वाज़ेह दलील के एअ़तेबार से, लोगों में सब से अफ़ज़ल नेकी के एअ़तेबार से, लोगों में सबसे अफ़ज़ल रहम व करम के एअ़तेबार से, लोगों में सब से अफ़ज़ल हम्द व शुक्र के एअ़तेबार से, लोगों में सब से अफ़ज़ल भलाई के एअ़तेबार से, और लोगों में सब से अफ़ज़ल आल व औलाद और अस्हाब व मददगार के एअ़तेबार से, हर वली के जौहर और उस की रौशनी, गुम्रही से निकालने वाले, रूहों को कुद्दूस की बारगाह में बुलाने वाले, फ़ज़ल वालों के सरदार, अफ़ज़ल लोगों के सरदार, तवाजोअ़ (आजेज़ी) एख़्तियार करने वालों के सरदार, फ़ज़ीलत वाले, आस्मान व ज़मीन के रसूल, और फ़ज़ल की इब्तेदा व इन्तिहा अल्लाह

तर्जमा: अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो पस्त करने वाला बुलंद करने वाला है, ऐ हमारे अल्लाह मैं तुझ से सवाल करता हूँ ऐ नुक़सान देने वाले, ऐ नफ़अ़ देने वाले, हर चीज़ पर क़ब्ज़ा करने वाले, कुशादा करने वाले, तमाम तअ़रीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहान का पालनहार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, हिसाब के दिन का मालिक है, हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें, आस्मान व ज़मीन को बेनमूना के बनाने वाला है, जब वह किसी चीज़ का फ़ैसला फ़रमाता है तो सिर्फ़ उससे कहता है होजा पस वह हो जाती है, मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि तू ख़ूब ख़ूब दुरूदो सलाम नाज़िल फ़रमा हमारे सरदार हमारे मौला अपनी खुश्नूदी अपनी रेज़ा और तेरा फ़ैसला, तेरा फ़ज़ल, तेरे तमाम अम्बिया में अफ़ज़ल, तेरी तमाम मख़्लूकों में अफ़ज़ल, तेरे हक़ को काएम करने में अफ़ज़ल, तेरे ज़िक़्र में

(ظ) آبی

صَلْوَةُ الظَّاءِ الْأَرْبَعِينَ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ
 يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ أَصْلِحْ ظَاهِرِي وَبَاطِنِي مَعَ
 مَحَبَّتِكَ وَإِطَاعَةِ حُكْمِكَ بِالْخُلُوصِ
 وَاحْفَظْنِي مِنَ الْآفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ
 وَمَعْصِيَّتِكَ وَحَبِيبِكَ وَمِنْ شَرِّ النَّفْسِ
 وَالشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
 الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ
 وَالنَّاسِ ۝ يَا حَفِيظُ تَحَفَّظْتَ بِالْحِفْظِ
 وَالْحَفْظُ فِي حِفْظِ حِفْظِكَ يَا حَفِيظُ أَسْأَلُكَ

के रसूल मोहम्मद ﷺ पर और आप ﷺ के
 वालिदैन पर, और आप ﷺ की आल व अहले
 बैत और अस्हाब पर तमाम अम्बिया व रसूलों
 पर, तमाम शोहदा और औलिया पर, तमाम
 फ़िरिशतों और तमाम उम्मतियों पर, तमाम
 आस्मान व ज़मीन वालों में से हर दम तेरी
 तमाम मअलूम तअदाद के मुताबिक, तमाम
 तअरीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिस ने मुझे
 उस हाल से बचाया जिसमें तुम्हें मुब्तिला किया
 और उसने अपनी बहुत सी मख़्लूक पर मुझे
 फ़ज़ीलत बख़्शी और मैं तुझ से सवाल करता हूँ
 ऐ हमारे अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला उनका
 रास्ता जिन पर तूने इन्आम फ़रमाया उनका
 रास्ता नहीं जिन पर ग़ज़ब हुवा और ना बहके
 हुआ का तू क़बूल फ़रमा।

أَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا سَيِّدِ
 الْحَافِظِينَ وَسَيِّدِ الْمَحْفُوظِينَ وَسَيِّدِ
 الظَّافِرِينَ وَسَيِّدِ الْمُظْفَرِينَ وَسَيِّدِ
 الوَاعِظِينَ وَصَاحِبِ الوَسِيلَةِ العُظْمَى
 وَنِعْمَتِكَ العُظْمَى وَصَاحِبِ العِظْمَةِ
 وَصَاحِبِ القُدْرِ العَظِيمِ وَصَاحِبِ الخُلُقِ
 العَظِيمِ وَأَعْظَمِ النَّاسِ بَرًّا وَأَعْظَمِ
 النَّاسِ رَحْمًا وَكَرَمًا وَأَعْظَمِ النَّاسِ حَمْدًا
 وَشُكْرًا وَأَعْظَمِ النَّاسِ شَأْنًا وَأَعْظَمِ
 النَّاسِ خَيْرًا وَمُظَهِّرِ ذَاتِكَ وَصِفَاتِكَ
 وَمُظَهِّرِ أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ وَأَكْرَمِ مَنْ
 أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ

وَمُظَهِّرِ أَنْوَارِ التَّجَلِّيَّاتِ وَسِرِّ اسْرَارِكَ
 الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَأَظْهَرِ النَّاسِ سُلْطَنًا وَ
 أَظْهَرِ النَّاسِ بُرْهَانًا وَأَعْظَمِ خَلْقِكَ وَ
 أَعْظَمِ مَا فِي السَّبُوتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَ
 سُلْطَنِ المَظَاهِرِ الكَمَالِيَّةِ وَظِلِّكَ الوَارِفِ
 وَعَلَامِ لَوْحِ المَحْفُوظِ وَمَحْبُوبِ رَبِّ
 العَرْشِ العَظِيمِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ وَعَلَى
 وَالدِّيَةِ وَآلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَكُلِّ
 الأنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ
 وَالمَلَائِكِ وَالْأُمَّمِ مِنْ أَهْلِ السَّبُوتِ
 وَالأَرْضِيْنَ أَجْمَعِينَ كُلِّ الحَالِ بِعَدَدِ كُلِّ
 مَعْلُومٍ لَكَ صَلَوةٌ تُؤْتِي بِهَا أُمَّةٌ حَبِيبِكَ فِي

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَتَحْفَظُهُمْ

بِهَا مِنْ عَذَابِ الدَّهْرِ وَالْقَبْرِ وَالْحَشْرِ ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بلندی والا عظمت والا ہے، اے ہمارے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے ظاہر، اے باطن، میرے ظاہر و باطن کو اپنی محبت کے ساتھ اور اپنے حکم کی خلوص سے اطاعت کے ساتھ اچھا کر دے، اور تمام آفتوں اور بلاؤں سے، اپنی اور اپنے حبیب کی نافرمانی سے مجھے محفوظ فرمادے، نفس و شیطان کے شر سے، اور اس شیطان کے شر سے میری حفاظت فرما جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے، اے حفاظت فرمانے والے تو نے حفاظت فرمائی حفاظت کے ساتھ اور حفاظت تیری حفاظت کی حفاظت میں ہے، اے حفاظت کرنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار ہمارے مولیٰ حفاظت کرنے والوں کے سردار، فتمند لوگوں کے سردار، کامیاب لوگوں کے سردار، نصیحت کرنے والوں کے سردار، عظیم

وسیلہ والے، عظیم نعمت والے، عظمت والے، عظیم مرتبہ والے، بلند اخلاق والے، لوگوں میں سب سے عظیم نیکی کے اعتبار سے، لوگوں میں سب سے عظیم رحم و کرم کے اعتبار سے، لوگوں میں سب سے عظیم حمد و شکر کے اعتبار سے، لوگوں میں سب سے عظیم شان کے اعتبار سے، لوگوں میں سب سے عظیم بھلائی کے اعتبار سے، تیری ذات و صفات کے مظہر، تیرے اسماء اور صفات کے مظہر، ان میں سب سے زیادہ عزت والے جن پر رات طاری ہوتی اور دن روشن ہوتا ہے، تجلیات کے نوروں کے مظہر تیرے ظاہری و باطنی رازوں کا راز، لوگوں میں سب سے زیادہ ظاہر بادشاہت کے اعتبار سے، لوگوں میں سب سے زیادہ ظاہر دلیل کے اعتبار سے، تیری مخلوق میں سب سے عظیم، آسمان و زمین کے موجود میں سب سے عظیم، مظاہر کمالیہ کے بادشاہ، تیرے کشادہ سایہ، لوح محفوظ کے خوب جاننے والے، اور عرش عظیم کے رب کے محبوب اللہ کے رسول محمد ﷺ پر، اور آپ ﷺ کے والدین پر، اور آپ ﷺ کی آل و اہل بیت اور اصحاب پر تمام انبیاء و رسولوں پر، تمام شہداء اور اولیاء پر، تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر تمام آسمان و زمین والوں میں سے ہر دم تیری تمام معلوم

हिफ़ाज़त करने वाले, मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि तू खूब खूब दुखद व सलाम नाज़िल फ़रमा हमारे सरदार हमारे मौला हिफ़ाज़त करने वालों के सरदार, फ़तहमंद लोगों के सरदार, काम्याब लोगों के सरदार, नसीहत करने वालों के सरदार, अज़ीम वसीला वाले, अज़ीम नेअमत वाले, अज़मत वाले, अज़ीम मर्तबा वाले, बुलंद अख़्लाक वाले, लोगों में सब से अज़ीम नेकी के एअ़तेबार से, लोगों में सब से अज़ीम रहम व करम के एअ़तेबार से, लोगों में सबसे अज़ीम हम्द व शुक्र के एअ़तेबार से, लोगों में सब से अज़ीम शान के एअ़तेबार से, लोगों में सब से अज़ीम भलाई के एअ़तेबार से, तेरी ज़ात व सिफ़ात के मज़हर, तेरे अस्मा और सिफ़ात के मज़हर, उन में सब से ज़्यादा इज़ज़त वाले जिन पर रात तारी होती और दिन रौशन होता है, तजल्लियात के नूरों के मज़हर, तेरे ज़ाहिरी व बातिनी राज़ों का राज़, लोगों में सब से ज़्यादा ज़ाहिर

تعداد کے مطابق ایسا درود کہ جس کی برکت سے اپنے حبیب ﷺ کی امت کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور انہیں دہر و قہر و حشر کے عذاب سے محفوظ فرمادے۔

तर्जमा: अल्लाह के नाम से शुरुअ जो बुलंदी वाला अज़मत वाला है, ऐ हमारे अल्लाह मैं तुझ से सवाल करता हूँ ऐ ज़ाहिर, ऐ बातिन मेरे ज़ाहिर व बातिन को अपनी मोहब्बत के साथ और अपने हुक्म की खुलूस से एताअत के साथ अच्छा करदे, और तमाम आफ़तों और बलाओं से, अपनी और अपने हबीब की नाफ़रमानी से, मुझे महफूज़ फ़रमा दे, नफ़स और शैतान के शर से, और उस शैतान के शर से मेरी हिफ़ाज़त फ़रमा जो वस्वसा डाल कर छुप जाता है जो लोगों के सीनों में वस्वसे डालता है जिन्नों और इन्सानों में से, ऐ हिफ़ाज़त फ़रमाने वाले तूने हिफ़ाज़त फ़रमाई हिफ़ाज़त के साथ और हिफ़ाज़त तेरी हिफ़ाज़त की हिफ़ाज़त में है, ऐ

(غ) खाकी

صَلْوَةُ الْغَيْنِ الْأَرْبَعِينَ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْغُفُورِ الرَّحِيمِ ○ يَا غُفُورُ
تَغْفِرْتَ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْمَغْفِرَةَ فِي مَغْفِرَةٍ
مَغْفِرَتِكَ يَا غُفُورُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ
اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ يَا غَالِبُ إِغْلِبْ عَلَيَّ ظَاهِرِي
وَبَاطِنِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِفَيْؤُضِهِ وَبَرَكَاتِهِ يَا
غَفَّارَ الذُّنُوبِ يَا سَتَّارَ الْعُيُوبِ إِغْفِرْ
لِذُنُوبِ أُمَّةِ حَبِيبِكَ وَأَسْتُرْ عُيُوبَهُمْ يَا
مُغْنِيَّ أَعْيُنِي بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا عَلَّامَ
الْغُيُوبِ وَيَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ وَيَا مُغِيثُ وَيَا

बादशाहत के एअतेबार से, लोगों में सब से
ज्यादा ज़ाहिर दलील के एअतेबार से, तेरी
मख्लूक में सब से अज़ीम, आस्मान व ज़मीन के
मौजूद में सब से अज़ीम, मज़ाहिरे कमालिया के
बादशाह, तेरे कुशादा साया, लौहे महफूज़ के ख़ूब
जानने वाले, और अशें अज़ीम के रब के
महबूब, अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर और
आप ﷺ के वालिदैन पर, और आप ﷺ की
आल व अहले बैत और अस्थाब पर, तमाम
अम्बिया व रसूलों पर, तमाम शोहदा और
औलिया पर, तमाम फिरिशतों और तमाम
उम्मतियों पर, तमाम आस्मान व ज़मीन वालों में
से हर दम तेरी तमाम मअलूम तअदाद के
मुताबिक, ऐसा दुखद कि जिस की बरकत से
अपने हबीब ﷺ की उम्मत को दुनिया में भलाई
दे और आखिरत में भलाई दे और उन्हें दहो
कब्रो हश्न के अज़ाब से महफूज़ फ़रमादे।

غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغْنِنِي وَأَعْطِنِي الْعِلْمَ
 اللَّهُدُنِّي مَعَ إِطَاعَةِ حُكْمِكَ وَأَمْدُدْنِي فِي الدَّهْرِ
 وَالْقَبْرِ وَالْحَشْرِ مِنَ الْأَلَامِ وَالْغُومِ مَعَ
 حَبِيبَتِكَ وَحَبِيبِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ
 عَلَيَّ سَيِّدِ الْمَشْرِقِينَ وَالْمَغْرِبِينَ وَسَيِّدِ
 الرَّاعِبِينَ وَعَوْثِ رَبِّ الْمَكَانِ وَاللَّامِكَانَ
 وَمُبَيِّنِ غَيْبِكَ وَعَالِمِ أَسْرَارِ غَيْبِكَ
 وَغَنِيِّكَ وَغَنَائِكَ وَغُفْرَانِكَ وَغَوْثِكَ
 وَغِيَاثِكَ وَمُغِيثِكَ وَمُبَلِّغِ حُكْمِكَ
 وَالْمُسْتَغْفِرِ لِلْأَمَمِ وَكَاشِفِ الْغَمِّ
 وَالْمُظَلِّلِ بِالْغَمَامَةِ وَأَنْبِيسِ الْغَرِيبِينَ
 وَوَحِيِّ الْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ

وَعَلَى وَالِدَيْهِ وَآلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَكُلِّ
 الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَ
 الْمَلَائِكِ وَالْأُمَّمِ مِنْ أَهْلِ السَّبُوتِ
 وَالْأَرْضِينَ أَجْمَعِينَ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ
 صَلَوةٌ تَغْفِرُ بِهَا لِكُلِّ أُمَّةٍ حَبِيبِكَ وَتُعْزُهُمْ
 بِهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 وَالشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اے بخشنے والے، تو نے بخشش فرمائی مغفرت کے ساتھ اور مغفرت تیری بخشش کی بخشش میں ہے، اے بہت بخشنے والے اور اللہ بے نیاز ہے، تم سب محتاج ہو، اے ہمارے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے غلبہ والے، میرے ظاہر و باطن پر لا الہ الا اللہ کو غالب کر دے اس کے فیوض و برکات کے ساتھ، اے گناہوں کو بخشنے والے، اے عیبوں کو چھپانے والے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی

امتیوں کے گناہوں کو بخش دے اور ان کے عیبوں کو ڈھانپ دے، اے غنی کرنے والے تو اپنی رحمت و کرم کے ساتھ مجھے غنی بنا دے، اے غنیوں کے جاننے والے، اے بخشنے والوں میں سب سے بہتر، اے مددگار، اے فریاد چاہنے والوں کے فریادرس میری فریادرس فرما اور مجھے علم لدنی عطا فرما اپنے حکم کی اطاعت کے ساتھ اور میری مدد فرما دہر و قبر و حشر میں تمام رنجوں اور غموں سے اپنی اور اپنے حبیب ﷺ کی محبت کے ساتھ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو خوب خوب درود و سلام نازل فرما مشرقین و مغربین کے سردار، رغبت کرنے والوں کے سردار، مکان و لامکان کے رب کے غوث، تیرے غیب کے بیان کرنے والے، غیب کے رازوں کو جاننے والے، تیرے غنی، تیری بے نیازی، تیری بخشش، تیرے غوث، تیرے فریادرس، تیرے مددگار، تیرے حکم کو پہنچانے والے، امتیوں کی بخشش چاہنے والے، غم کو دور کرنے والے، بادل کے ساتھ سایہ فگن، غریبوں کے غم خوار، فقیروں اور غریبوں سے محبت کرنے والے اللہ کے رسول محمد ﷺ پر، اور آپ ﷺ کے والدین پر، اور آپ ﷺ کی آل و اہل بیت اور اصحاب پر تمام انبیاء

ورسولوں پر، تمام شہداء اور اولیاء پر، تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر تمام آسمان وزمین والوں میں سے تیری تمام معلوم تعداد کے مطابق ایسا درود کہ جس کی برکت سے اپنے حبیب ﷺ کی ساری امت کو بخش دے اور انہیں عزت عطا فرما اپنی رحمت کے واسطے سے اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے اور تمام شکر اللہ ہی کے لئے ہے ہر حال میں۔

تَرْجَمَا: اَللّٰہ کے نام سے شُرُؤْ جُو بھوت بَرِخْشَانِے وَاَلَا مَہَرَبَانِے هَے، اے بَرِخْشَانِے وَاَلَا، تُو نے بَرِخْشَانِے فَرْمَا اے مَغْفِرَتِے کے سَاثِے اُو ر مَغْفِرَتِے تَے رِے بَرِخْشَانِے مَے هَے، اے بھوت بَرِخْشَانِے وَاَلَا، اُو ر اَللّٰہ بَے نِیَا جِے هَے، تُو م سَب مَو هِتَا جِے هُو، اے ہمارے اَللّٰہ مَے تُو جِے سے سَوَالِے کَر تَا هُو اے غَلْبَا وَاَلَا، مَے رَے جَا هِرِے وَاَلَا بَاتِنِے پَر لَا اِیْلَا هَا اِلْلَلّٰہ کُو غَالِبِے کَر دَے اُسکَے فُیُو جُو بَر کَا تِے کے سَاثِے، اے گُو نَا هُو ُو کُو بَرِخْشَانِے وَاَلَا، اے اے بُو ُو کُو چُو پَانِے وَاَلَا تُو ا_P نَے هَبِیْبِے ﷺ کِے گُو نَا هُو ُو کُو بَرِخْشَانِے دَے

फगन, गरीबों के गम ख़वार, फ़कीरों और ग़रीबों से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर और आप ﷺ के वालिदैन पर, और आप ﷺ की आल व अहले बैत और अस्हाब पर, तमाम अम्बिया व रसूलों पर, तमाम शोहदा और औलिया पर, तमाम फ़िरिशतों और तमाम उम्मतियों पर, तमाम आस्मान व ज़मीन वालों में से तेरी तमाम मअलूम तअदाद के मुताबिक़, ऐसा दुख़द कि जिस की बरकत अपने हबीब ﷺ की सारी उम्मत को बख़्श दे और उन्हें इज़्ज़त अता फ़रमा अपनी रहमत के वास्ते से ऐ तमाम रहम करने वालों में सब से ज़्यादा मेहरबान, और तमाम तअरीफ़ अल्लाह ही के लिए है और तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए है हर हाल में।

और उनके ऐबों को ढाँप दे, ऐ ग़नी करने वाले तू अपनी रहमत व करम के साथ मुझे ग़नी बनादे, ऐ ग़ैबों के जानने वाले, ऐ बख़्शने वालों में सब से बेहतर, ऐ मददगार, ऐ फ़रयाद चाहने वालों के फ़रयादरस मेरी फ़रयाद रसी फ़रमा और मुझे इल्मे लदुन्नी अता फ़रमा अपने हुक्म की एताअत के साथ और मेरी मदद फ़रमा दहो क़ब्रों हश्म में तमाम रन्जों और ग़मों से अपनी और अपने हबीब ﷺ की मोहब्बत के साथ, मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि तू ख़ूब ख़ूब दुख़दो सलाम नाज़िल फ़रमा मशिरकैन व मगरिबैन के सरदार, रग़बत करने वालों के सरदार, मकान व ला मकाँ के रब के ग़ौस, तेरे ग़ैब के ब्यान करने वाले, ग़ैब के राज़ों को जानने वाले, तेरे ग़नी, तेरी बेनियाजी, तेरी बख़्शिश, तेरे ग़ौस, तेरे फ़रयादरस, तेरे मददगार, तेरे हुक्म को पहुँचाने वाले, उम्मतियों की बख़्शिश चाहने वाले, ग़म को दूर करने वाले, बादल के साथ साया

سه شنبه (منگل)

(ط) آتشی

صَلَاةُ الطَّاءِ الْأَرْبَعِينَ

بُدُونِ النُّقْطَةِ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الطَّاهِرِ الْمُعْطَى ○ اللَّهُمَّ
 أَسْأَلُكَ أَيُّ مُطَهَّرٍ طَهَّرَ رَوْعِي هِمَّا سِوَاكَ
 وَأَحْصِ رَوْعِي مَعَ كَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ وَأَدِمِ
 رَوْعِي مَعَ كَلَامِكَ الطَّاهِرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ
 حَالٍ أَيُّ مُطَهَّرٍ طَهَّرَ اللَّهُ مَعَ الطُّهْرِ وَالطَّاهِرِ
 حَوْلَ طَهْرٍ طَهَّرَكَ أَيُّ مُطَهَّرٍ أَيُّ مُعْطَى أَعْطَى

الْبَأْوَى سُوءَ كُلِّ الْبَرْدُودِ وَالْبَطْرُودِ وَأَهْلِ
 الْهَوَى أَيُّ مُعْطَى الْأَلَاءِ صَلَّى وَسَلَّمْ سَرْمَدًا
 طَاهِرًا مُطَهَّرًا عَلَى مَوْلَائِي أَصْلِكَ الطَّاهِرِ
 وَمُطَهَّرِكَ وَصِرَاطِكَ وَأَطَهَّرِ كُلِّ الْعَالَمِ
 وَمَوْلَى كُلِّ طَاهِرٍ وَمَوْلَى كُلِّ مُطَهَّرٍ
 وَالْبَوْلُودِ الطَّاهِرِ وَلَدَا الْحَرَمِ وَمَوْلَى كُلِّ
 مُعْطَى وَعَلَامِ الطُّرُوسِ وَطَائِعِ حُكْمِكَ
 وَطَوْعِ إِسْلَامِكَ وَمُطْلِعِ أَسْرَارِكَ وَسَطِّحِ
 الْإِلَهَامِ وَهَيْلَالِكَ السَّاطِعِ وَسَطِّحِ السَّمَاءِ
 وَمَاسِوَاهُ وَمُطْلِعِ عَطَارِدِ عُلُومِكَ أَعْطَاهُ اللَّهُ
 كُلَّ الْبُلُوكِ مَعَ عَطَائِهِ الْعَطَاءِ وَعَطَائِهِ
 دَائِمًا وَمُعْطَى الْأَمَمِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى

وَالِدِهِ وَأُمِّهِ وَإِلَيْهِ وَالْمَوْلَىٰ عَلِيٌّ وَوَلَدَتْنِي عَلِيٌّ وَ
 أُمَّهُنَا وَحُمِّي الْإِسْلَامِ وَإِلَيْهِ وَوَالِي الْإِسْلَامِ
 وَإِلَيْهِ وَمَوْلَاتِي أَحْمَدَ وَوَلِيَّ اللَّهِ وَخَوَارِجِي وَوَلِيَّ اللَّهِ
 وَإِلَيْهِ وَكُلِّ الْمَلَائِكَةِ وَ أُمَّمِ رَسُولِ اللَّهِ كُلِّ

○ الْحَالِ

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو پاک ہے عطا فرمانے والا ہے،
 اے ہمارے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے پاک فرمانے
 والے میرے دل کو اپنے ماسوا سے پاک کر دے اور میرے دل
 کو اپنے کرم اور رحم سے گھیر لے، میرے دل کو اپنے پاک کلامِ اَلْحَمْدُ
 لِلَّهِ عَلَيَّ كُلِّ حَالٍ (تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے ہر حال میں)
 سے دائم فرمادے، اے بہت پاک کرنے والے، اللہ نے پاک
 فرمایا پاکی کے ساتھ اور پاکی تیری پاکی کی پاکی میں ہے، اے پاک
 فرمانے والے، اے عطا کرنے والے، ہر مردود، سرکش اور نفس
 والوں کی بُرائی سے پناہ عطا فرما، اے نعمتوں کے عطا کرنے

والے تو خوب خوب پاکیزہ، پاک کرنے والا سردی درود و سلام نازل
 فرما میرے مولیٰ تیرے اصل پاکیزہ، تیرے پاک کرنے
 والے، تیرے راستہ، سارے عالم میں سب سے زیادہ پاکیزہ، تمام
 پاک لوگوں کے سردار، تمام پاک کرنے والوں کے سردار، پاکیزہ
 مولود جو مکہ میں پیدا ہوئے، تمام عطا کرنے والوں کے سردار، تمام
 صحیفوں کے خوب جاننے والے، تیرے حکم کی پیروی کرنے والے،
 تیرے اسلام کی اطاعت، تیرے رازوں سے باخبر
 کرنے والے، الہام کے نور، تیرے روشن چاند، آسمان وزمین کے
 نور، تیرے علوم کے عطار کے طلوع ہونے کی جگہ جنہیں اللہ نے
 سارے ملک عطا فرمائے اپنی عطا کی عطا کے ساتھ، اور اس کی عطا
 دائمی ہے، اور تمام امتیوں کے عطا کرنے والے اللہ کے رسول
 محمد ﷺ پر اور آپ ﷺ کے والد پر، اور آپ ﷺ کی والدہ
 پر، آپ ﷺ کی آل و اولاد پر اور سیدی مولیٰ علی مرتضیٰ پر اور مولیٰ
 علی کے دونوں لاڈلوں امام حسن اور امام حسین پر اور سیدہ فاطمہ زہرا
 پر اور اسلام کے زندہ کرنے والے شیخ عبدالقادر جیلانی پر، آپ کی
 آل پر اور اسلام کے مددگار خواجہ معین الدین پر اور آپ کی آل پر اور

से ज़्यादा पाकीज़ा, तमाम पाक लोगों के सरदार, तमाम पाक करने वालों के सरदार, पाकीज़ा मौलूद जो मक्का में पैदा हुए, तमाम अ़ता करने वालों के सरदार, तमाम शरीफ़ों के ख़ूब जानने वाले, तेरे हुक्म की पैरवी करने वाले, तेरे इस्लाम की ए़ताअ़त, तेरे राज़ों से बा ख़बर करने वाले, इल्हाम के नूर, तेरे रौशन चाँद, आस्मान व ज़मीन के नूर, तेरे उ़लूम के उ़तारिद के तुलूअ़ होने की जगह, जिन्हें अल्लाह ने सारे मुल्क अ़ता फ़रमाए अपनी अ़ता की अ़ता के साथ, और उसकी अ़ता दाइमी है, और तमाम उम्मतियों के अ़ता करने वाले अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर और आप ﷺ के वालिद पर, और आप ﷺ की वालिदा पर और आप ﷺ की आल व औलाद पर और सय्यिदी मौला अ़ली मुर्तज़ा पर और मौला अ़ली के दोनों लाडलों इमामे हसन और इमामे हुसैन पर और सय्यिदा फ़ातिमा ज़हरा पर और इस्लाम के ज़िन्दा करने

سید مخدوم احمد ولی اللہ پر آپ کے تمام روحانی اصحاب پر اور آل پر تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر ہر دم۔

तर्जमा: अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो पाक है अ़ता फ़रमाने वाला है, ऐ हमारे अल्लाह मैं तुझ से सवाल करता हूँ ऐ पाक फ़रमाने वाले मेरे दिल को अपने मासिवा से पाक करदे और मेरे दिल को अपने करम और रहम से घेरले और मेरे दिल को अपने पाक कलाम “तमाम तअ़रीफ़ अल्लाह ही के लिए है हर हाल में” से दाइम फ़रमा दे, ऐ बहुत पाक करने वाले, अल्लाह ने पाक फ़रमाया पाकी के साथ और पाकी तेरी पाकी की पाकी में है, ऐ पाक फ़रमाने वाले, ऐ अ़ता करने वाले, हर मर्दूद, सरकश और नफ़्स वालों की बुराई से पनाह अ़ता फ़रमा, ऐ नेअ़मतों के अ़ता करने वाले तू ख़ूब ख़ूब पाकीज़ा, पाक करने वाला सरमदी दुरूदो सलाम नाज़िल फ़रमा मेरे मौला, तेरे अ़स्ले पाकीज़ा, तेरे पाक करने वाले, तेरे रास्ता, सारे आलम में सब

رَسُوْلِكَ اَمِي مُحَصِيْ اَحْصِي رَهْطَ رَسُوْلِكَ
 وَسَطَ رَحْمِكَ وَكَرَمِكَ اَمِي حَيُّ اَمِي وَلِيُّ صَلِّ
 وَسَلِّمْ عَلٰى مَوْلَايْنِيْ عَلٰى رَحْمِكَ الْاَعْلٰى
 وَكَرَمِكَ الدَّائِمِيْ وَسِيْرِكَ الْعُلٰى وَمُعْطٰى
 كَرَمِكَ كُلِّ الْعَالَمِ وَالْمَوْلٰى لِكُلِّ الْعَالَمِ
 وَالْبَاحِيْ لِكُلِّ سُوءٍ وَالِدَّاعِيْ لِكُلِّ الْاَرْوَاحِ
 اِلٰى عَالَمٍ هُوَ وَسِيْرِكَ الْحَمِيْ وَلَبْعِكَ الْهُدٰى
 مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ وَعَلٰى وَالِدِهِ وَاُمِّهِ وَاِلَيْهِ
 وَالْمَوْلٰى عَلِيٍّ وَوَلَدَتِيْ عَلِيٍّ وَ اُمِّهَبَا وَمُحِي
 الْاِسْلَامِ وَاِلَيْهِ وَوَالِ الْاِسْلَامِ وَاِلَيْهِ
 وَمَوْلَايْنِيْ اَحْمَدَ وَاِلٰى اللهِ وَحَوَارِيِّيْ وَاِلٰى اللهِ وَاِلَيْهِ
 وَكُلِّ الْمَلٰئِكَةِ وَاُمِّمِ رَسُوْلِ اللهِ كُلِّ الْحَالِ ۝

والے شیخ اَبْدُل کَادِر جیلانی پر، آپ کی
 آلال پر اور اسلام کے مددگار خِواج
 موئِنُدِیْن پر آپ کی آلال پر اور سخید
 مَخْدُوْم اَهْمَد ولیُّللاہ پر آپ کے تمام
 رُحَانِی اَسْطَرَاب پر اور آلال پر، تمام
 فِیْرِشْتُوں اور تمام اُمَّتِیُوں پر ہر دم!

(ی) بادی

صَلُوٰةُ الْيَاۤءِ الْاَرْبَعِيْنَ

بِدُوْنِ النُّقْطَةِ

مَعَ اسْمِ اللهِ الْحَيِّ الْعَلِيِّ ۝ اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ اَمِي
 هَادِيْ اِهْدِ كُلَّ رَهْطِ رَسُوْلِكَ الْهُدٰى
 الدَّائِمِيْ اَمِي وَلِيُّ اِهْدِ رَهْطَ رَسُوْلِكَ صِرَاطِ
 وَلِيُّ اللهِ اَمِي وَآلِيْ اَعْطِ رَهْطَ رَسُوْلِكَ وُدًّا

(ک) آبی

صَلْوَةُ الْكَافِ الْأَرْبَعِينَ

بِدُونِ النُّقْطَةِ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْمَلِكِ السَّلَامِ ۝ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ
 أَيَّ حَكْمٍ حَكَمَ اللَّهُ مَعَ الْحُكْمِ وَالْحُكْمُ
 وَسَطُ حُكْمٍ حُكْمِكَ أَيَّ حَكْمٍ أَيَّ مَلِكٍ
 الْمَلِكِ أَعْطِ السَّلَامَ كُلَّ رَهْطِ رَسُولِكَ
 أَسْأَلُكَ أَيَّ مَلِكِ السَّبَاءِ وَمَاسِوَاهُ صَلِّ
 وَسَلِّمْ وَكَرِّمْ عَلَى مَوْلَائِي مَلِكِ مُلْكِكَ
 وَرَحْمِكَ وَكَرَمِكَ وَحَمْدِكَ وَعَلَيْكَ وَحِكْمِكَ

तेरा करम अता करने वाले, सारे आलम के सरदार, हर बुराई को मिटाने वाले, तमाम रूहों को आलमे हू की तरफ बुलाने वाले, और तेरे महफूज़ राज़, तेरी हिदायत के नूर, अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर और आप ﷺ के वालिद पर, और आप ﷺ की वालिदा पर, आप ﷺ की आल व औलाद पर और सय्यिदी मौला अली मुर्तजा पर और मौला अली के दोनों लाडलों इमामे हसन और इमामे हुसैन पर और सय्यिदा फातिमा ज़हरा पर और इस्लाम के ज़िन्दा करने वाले शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी पर, आप की आल पर और इस्लाम के मददगार ख़ाजा मोईनुद्दीन पर आप की आल पर और सय्यिद मख़्दूम अहमद वलीयुल्लाह पर आप के तमाम रूहानी अस्हाब पर और आल पर, तमाम फिरिश्तों और तमाम उम्मतियों पर हर दमा।

وَجَلْبِكَ وَكَمَالِكَ وَكَلَامِكَ وَمَسْعُودِكَ
 وَامَامِ كُلِّ عَالَمِكَ وَسِرِّ اسْرَارِكَ وَصَادِعِ
 اَمْرِكَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ وَالِدِهِ وَامَمِهِ
 وَآلِهِ وَالْمَوْلَىٰ عَلِيٍّ وَوَلَدَتَيْ عَلِيٍّ وَامَمَهُمَا وَهَجْرَتِهِ
 الْاِسْلَامِ وَآلِهِ وَوَالِي الْاِسْلَامِ وَآلِهِ
 وَمَوْلَانِيْ اَحْمَدَ وَوَلِيَّ اللَّهِ وَخَوَارِجِيَّ وَوَلِيَّ اللَّهِ وَآلِهِ
 وَكُلِّ الْمَلَائِكَةِ وَامَمِ رَسُولِ اللَّهِ كُلِّ الْحَالِ ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو مالک ہے سلامتی دینے والا ہے، اے ہمارے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے فیصلہ فرمانے والے اللہ نے فیصلہ فرمایا فیصلہ کے ساتھ اور فیصلہ تیرے فیصلے کے فیصلے میں ہے اے فیصلہ فرمانے والے، اے تمام ملکوں کے مالک تو اپنے رسول کی ساری امت کو سلامتی عطا فرما میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے آسمان وزمین کے مالک تو خوب خوب درود و سلام اور

کرم نازل فرما میرے مولیٰ تیرے ملک کے مالک، تیری رحمت، تیرے کرم، تیری تعریف، تیرے علم، تیری حکمتوں، تیری بردباری، تیرے کمال، تیرے کلام، تیرے خوش بخت، تیرے سارے عالم کے امام، تیرے رازوں کے راز اور تیرے حکم کو کھلم کھلا بیان کرنے والے اللہ کے رسول محمد ﷺ پر اور آپ ﷺ کے والد پر، اور آپ ﷺ کی والدہ پر، آپ ﷺ کی آل و اولاد پر اور سیدی مولیٰ علی مرتضیٰ پر اور مولیٰ علی کے دونوں لاڈلوں امام حسن اور امام حسین پر اور سیدہ فاطمہ زہرا پر اور اسلام کے زندہ کرنے والے شیخ عبدالقادر جیلانی پر، آپ کی آل پر اور اسلام کے مددگار خواجہ معین الدین پر اور آپ کی آل پر اور سید مخدوم احمد ولی اللہ پر آپ کے تمام روحانی اصحاب پر اور آل پر تمام فرشتوں اور تمام

امتیوں پر ہر دم۔

تर्जमा: अल्लाह के नाम से शुरू जो मालिक है सलामती देने वाला है, ऐ अल्लाह मैं तुझ से सवाल करता हूँ ऐ फैसला फरमाने वाले अल्लाह ने फैसला फरमाया फैसला के साथ और फैसला

मददगार ख्वाजा मोईनुद्दीन पर आप की आल पर और सय्यिद मख्दूम अहमद वलीयुल्लाह पर आप के तमाम रूहानी अस्हाब पर और आल पर, तमाम फिरिश्तों और तमाम उम्मतियों पर हर दम।

(ल) खाकी

صَلَاةُ اللَّامِ الْأَرْبَعِينَ

بِدُونِ النَّقْطَةِ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ مُلِكِ الْمَلِكِ الْحَيِّ ۝ اللَّهُمَّ
 أَسْأَلُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمْ عَلَى
 مَوْلَانِي إِمَامِ كُلِّ إِمَامٍ وَحَامِلِ لِيَوَاءِ مُحَمَّدِكَ
 وَمَسْئُولِ اللَّحْدِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى

तेरे फैसले के फैसले में है ऐ फैसला फरमाने वाले, ऐ तमाम मुल्कों के मालिक तू अपने रसूल की सारी उम्मत को सलामती अता फरमा, मैं तुझ से सवाल करता हूँ ऐ आस्मान व ज़मीन के मालिक तू खूब खूब दुरूदो सलाम और करम नाज़िल फरमा मेरे मौला तेरे मुल्क के मालिक, तेरी रहमत तेरे करम, तेरी तअरीफ़, तेरे इल्म, तेरी हिक्मतों तेरी बुर्दबारी, तेरे कमाल, तेरे कलाम, तेरे खुश बख्त, तेरे सारे अलम के इमाम, तेरे राजों के राज, और तेरे हुक्म को खुल्लम खुल्ला ब्यान करने वाले अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर और आप ﷺ के वालिद पर, और आप ﷺ की वालिदा पर और आप ﷺ की आल व औलाद पर और सय्यिदी मौला अली मुर्तजा पर और मौला अली के दोनों लाडलों इमामे हसन और इमामे हुसैन पर और सय्यिदा फ़ातिमा ज़हरा पर और इस्लाम के ज़िन्दा करने वाले शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी पर, आप की आल पर और इस्लाम के

تَرْجَمًا: اَللّٰهُ کے نام سے شُرُوءِ جُو تَمَامِ مُلُوكِ كَا مَالِكِ هَيْ، هَمِيشَا جِيَنْدَا رَهْنِے وَآلَا هَيْ، اِي هَمَارِے اَللّٰهُ مَيْ تُوْجِنِے سِے سِوَالِ كَرْتَا هُوْنُ اَللّٰهُ كِے سِوَا كُوْئِي مِاْءُودِ نَهِيْنِے تُوْ خُوْبِ خُوْبِ دُورُوْدُو سَلَامِ نَاْجِلِ فَرْمَا مِےرِے مَوْلَا تَمَامِ اِمْاَمُوْ كِے اِمْاَمِ، تِےرِي هَمْدِ كَا اِنْجَا اُتَاْنِے وَآلِے، اُوْر كَبْرِ مَيْ سِوَالِ كِيَا جَاْنِے وَآلِے اَللّٰهُ كِے رَسُوْلِ مُوْهِمْمَدِ ﷺ پَر اُوْر اِيَا ﷺ كِے وَآلِدِ پَر، اِيَا ﷺ كِي وَآلِدَا پَر، اُوْر اِيَا ﷺ كِي اَالِ وَ اُوْلاَدِ پَر اُوْر تَمَامِ اَسْهَابِ پَر، تَمَامِ اُوْليَا پَر، تَمَامِ فِريْشْتُوْ اُوْر اُمَّتِيُوْ پَر، اِيَسَا دُورُوْدِ كِي جِيَسِ كِي بَرَكْتِ سِے تُو مِےرِي دُوْآ كُو سُوْنِ لِے رَهْمِ فَرْمَا اُوْر كَرَمِ فَرْمَا مِےرِے گُوْنَاهِ مِيتَاْدِے اُوْر اِپْنِے مُوْكَرْمِ كِي اُمَّتِ كُو هِيْدَايْتِ اْتَا فَرْمَا اِپْنِي مُوْهِبْبَتِ كِے سَاْثِ دَااْمِي تَوْرِ پَرَا.

وَآلِدِيْهٖ وَآمِيْهٖ وَآلِيْهٖ وَحَوَارِيْ رَسُوْلِيْ اَللّٰهِ وَكُلِّ
 وَلِيْ اَللّٰهِ وَآلِيْهِ وَآمِيْهِ سَلَامًا مَعَهُ اِسْمَعُ
 دُعَايِيْ وَارْحَمْ وَكِرْمْ وَارْحَمْ سُوْئِيْ وَاهْدِ رَهْطِ
 مُكْرَمِيْكَ مَعِ وُدِّكَ دَااِمًا ۝

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو تمام ملکوں کا مالک ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اے ہمارے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو خوب خوب درود و سلام نازل فرما میرے مولیٰ تمام اماموں کے امام، تیری حمد کا جھنڈا اٹھانے والے اور قبر میں سوال کئے جانے والے اللہ کے رسول محمد ﷺ پر اور آپ ﷺ کے والد پر، آپ ﷺ کی والدہ پر، اور آپ ﷺ کی آل و اولاد پر اور تمام اصحاب پر، تمام اولیاء پر، تمام فرشتوں اور امتیوں پر، ایسا درود کہ جس کی برکت سے تو میری دعا کو سن لے رحم فرما اور کرم فرما میرے گناہ مٹا دے اور اپنے مکرم کی امت کو ہدایت عطا فرما اپنی محبت کے ساتھ دائمی طور پر۔

چهارشنبه (بدھ)

(ش) آتشی

صَلْوَةُ الشَّيْنِ الْأَرْبَعِينَ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الرَّشِيدِ الشُّكُورِ مَا شَاءَ اللَّهُ
كَانَ ۞ اللَّهُمَّ يَا شَاهِدُ يَا شَهِيدُ
يَا رَبَّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ يَا شَافِي إِي شَفِ
أُمَّةً حَبِيبِكَ مِنْ كُلِّ الْأَمْرَاضِ وَالْبَلِيَّاتِ
وَالْحَسَدِ وَالْحَقْدِ وَالْكَذِبِ وَالْغَيْبَةِ
وَالْفَوَاحِشِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا يَا شَافِي يَا كَافِي
أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

وَمَوْلَانَا سَيِّدِ الشُّفَعَاءِ وَصَاحِبِ الشَّرِيعَةِ
الْغُرَّاءِ وَصَاحِبِ الطَّرِيقَةِ الْغُرَّاءِ وَصَاحِبِ
الْمَعْرِفَةِ الْغُرَّاءِ وَصَاحِبِ الْحَقِيقَةِ الْغُرَّاءِ
وَشَفِيعِ الْأُمَّةِ وَذِي الشَّرَفِ الْأَعْلَى وَأَصْلِ
عَرْشِكَ وَذَكَرِكَ وَشَكَرِكَ وَمَاجِي الشُّرُكِ
وَالضَّلَالَةِ وَالْمُتَلَذِّذِ بِمُشَاهَدَتِكَ وَالَّذِي
إِنْ شَقَّتْ مِنْهُ الْأَسْرَارُ وَصَاحِبِ الْقَلْبِ
الشَّاكِرِ وَسَيِّدِ الْأَشْرَافِ وَسَيِّدِ الشَّاكِرِينَ
وَالْمَشْكُورِينَ وَسَيِّدِ الشَّاهِدِينَ
وَالْمَشْهُودِينَ وَسَيِّدِ الْعَاشِقِينَ
وَالْمَعْشُوقِينَ وَسَيِّدِ الْمُبَشِّرِينَ وَأَشْرَفِ
كُلِّ الْعَالَمِ وَالنَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ وَشَرَفِ

الدَّارَيْنِ وَرَسُولِ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ
وَمُبَشِّرِ الْيَاسِينَ وَكَاشِفِ الْكُرْبِ وَشَفِيحِ
الْمُنْدَبِينَ الَّذِي قُلْتَ فِيهِ وَكَفَى بِاللَّهِ
شَهِيدًا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى وَالِدِيهِ وَآلِهِ
وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَكُلِّ الْأَنْبِيَاءِ
وَالرُّسُلِ وَالشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْمَلَائِكِ
وَالْأُمَّمِ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ
أَجْمَعِينَ كُلِّ الْحَالِ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ
صَلَاةٌ تَرْزُقُ بِهَا أُمَّةَ حَبِيبِكَ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ
الَّتِي فِيهَا قَالَ حَبِيبُكَ وَجَعَلْتَ قُرَّةَ عَيْنِي
فِي الصَّلَاةِ وَتَوَهَّلُ بِهَا أُمَّةَ حَبِيبِكَ بِشَرَابِ
ظُهُورٍ كَمَا قُلْتَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَسَقَهُمْ

رَبِّهِمْ شَرَابًا ظُهُورًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ
عَلَى كُلِّ حَالٍ ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو ہدایت دینے والا نیکی کا بدلہ دینے والا ہے، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اے ہمارے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے گواہی دینے والے، اے حاضر رہنے والے، اے مشرقین و مغربین کے پالنہار، اے شفاء دینے والے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شفاء بخش دے تمام مرضوں اور بلاؤں سے حسد و کینہ، جھوٹ اور غیبت سے، بے حیائیوں اور تمام گناہوں سے اے شفاء دینے والے، اے کفایت فرمانے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار ہمارے مولیٰ تمام سفارش کرنے والوں کے سردار، روشن شریعت والے، روشن طریقت والے، روشن معرفت والے، روشن حقیقت والے، امت کی شفاعت کرنے والے، بلند مرتبہ والے، تیرے عرش کی اصل، تیرا بہت ذکر کرنے والے، تیرا بہت شکر کرنے والے، شرک اور گمراہی کو مٹانے والے، تیرے مشاہدے سے لذت حاصل

بنادے، جیسا کہ تو نے قرآن مجید میں فرمایا اور انہیں ان کے رب نے پاکیزہ شراب پلایا، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے اور تمام شکر اللہ ہی کے لئے ہے ہر حال میں۔

تَرْجَمًا: اَللّٰہ کے نام سے شُرُوءُ جو ہدایات دینے والا نِکِی کا بدلا دینے والا ہے، اَللّٰہ نے جو چاہا وہ ہوا، اے ہمارے اَللّٰہ میں تو اِن سے سوا ل کرتا ہوں اے گواہی دینے والے، اے ہاجِر رہنے والے، اے مَشْرِکِیْن و مَغْرِبِیْن کے پالان ہار، اے شِفا دینے والے، تُو اپنے ہَبِیْب ﷺ کی اُمّت کو شِفا بَخْش دے تَمَام مَجْزِیٰں اُور بَلَاؤِں سے ہَسَد و کِیْنَا، اِزْط اُور رِیْبَت سے، بے ہَا یَا اِزْیُوں اُور تَمَام گُناہُوں سے اے شِفا دینے والے، اے کِیْفَا یَت فَرْمَانے والے میں تُو سے سوا ل کرتا ہوں کِی تُو اِزْط دَرُودُ سَلَام نَا جِل فَرْمَا ہمارے سَر دَا ر ہمارے مَؤْلا تَمَام سِفا رِش کرنے والوں کے سَر دَا ر، رَؤْشَن شَرِیْ اِزْط والے، رَؤْشَن تَرِیْ کُت والے، رَؤْشَن مَ اِ رِ فُت والے،

کرنے والے، اور وہ ذات جن سے اسرار نکلے، شکر گزار دل والے، تمام عزت داروں کے سردار، شکر کرنے والوں اور مشکور لوگوں کے سردار، مشاہدہ کرنے والوں اور مشہود لوگوں کے سردار، عاشقوں اور معشوقوں کے سردار، بشارت دینے والوں کے سردار، تمام عالم میں سب سے زیادہ بزرگ، ہاشمی نبی، دونوں جہان کی شرافت، مشرقین و مغربین کے رسول، مایوس لوگوں کو بشارت دینے والے، تکلیفوں کو دور کرنے والے، اور اس گنہگاروں کی سفارش کرنے والے پر جن کی شان میں تو نے فرمایا اور اللہ گواہی کے لئے کافی ہے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ ﷺ کے والدین پر، اور آپ ﷺ کی آل و اہل بیت اور اصحاب پر تمام انبیاء و رسولوں پر، تمام شہداء اور اولیاء پر، تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر تمام آسمان و زمین والوں میں سے ہر دم تیری تمام معلوم تعداد کے مطابق ایسا درود کہ جس کی برکت سے تو اپنے حبیب ﷺ کی امت کو وہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، جس کے بارے میں تیرے حبیب ﷺ نے فرمایا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے، ایسا درود کہ جس کی برکت سے تو اپنے حبیب ﷺ کی امت کو شراب طہور کا اہل

पर, और आप ﷺ की आल व अहले बैत और अस्ह़ाब पर, तमाम अम्बिया व रसूलों पर, तमाम शोहदा और औलिया पर, तमाम फिरिश्तों और तमाम उम्मतियों पर, तमाम आस्मान व ज़मीन वालों में से हर दम तेरी तमाम मअलूम तअदाद के मुताबिक, ऐसा दुखद कि जिस की बरकत से तू अपने हबीब ﷺ की उम्मत को वह नमाज़ काएम करने की तौफीक अता फ़रमा जिस के बारे में तेरे हबीब ﷺ ने फ़रमाया और मेरी आँखों की ठंडक नमाज़ में बनाई गई है, ऐसा दुखद कि जिस की बरकत से तू अपने हबीब ﷺ की उम्मत को शराबे तहूर का अहल बनादे, जैसा कि तूने कुर्आने मजीद में फ़रमाया और उन्हें उनके रब ने पाकीज़ा शराब पिलाया, और तमाम तअरीफ़ अल्लाह ही के लिए है और तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए है हर हाल में।

रौशन हकीकत वाले, उम्मत की शफ़ाअत करने वाले, बुलंद मर्तबा वाले, तेरे अर्श की अस्त तेरा बहुत ज़िक्र करने वाले, तेरा बहुत शुक्र करने वाले, शिर्क और गुम्हरी को मिटाने वाले, तेरे मुशाहदे से लज़ज़त हासिल करने वाले, और वह ज़ात जिन से असरार निकले, शुक्र गुज़ार दिल वाले, तमाम इज़ज़त दारों के सरदार, शुक्र करने वालों और मश्कूर लोगों के सरदार, मुशाहदा करने वालों और मश्हूद लोगों के सरदार, आशिकों और मअशूको के सरदार, बशारत देने वालों के सरदार, तमाम आलम में सब से ज़्यादा बुजुर्ग, हाश्मी नबी, दोनों जहान की शराफ़त, मशिरकैन व मगरिबैन के रसूल, मायूस लोगों को बशारत देने वाले, तक्लीफ़ों को दूर करने वाले, और उस गुनाहगारों की सिफ़ारिश करने वाले पर जिन की शान में तू ने फ़रमाया अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है कि मोहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं और आप ﷺ के वालिदैन

(ت) بادى

صَلُوةُ النَّاءِ الْأَرْبَعِينَ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ التَّوَابِ الرَّحِيمِ ○ يَا اللَّهُ أَنْتَ
 اللَّهُ بَلَى وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَكَبِّرُ
 اللَّهُ الْمَبْتِئِينَ اللَّهُ الْمُبْقِيَةُ اللَّهُ الْمُقْتَدِرُ اللَّهُ
 الْمُتَعَالُ اللَّهُ الْمُنتَقِمُ اللَّهُ التَّامُّ لَهُ الْمُلْكُ
 وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ أَسْأَلُكَ إِنَّكَ تَوَّابٌ
 رَحِيمٌ يَا مُوَفِّقَ التَّوْبَةِ يَا قَابِلَ التَّوْبَةِ اغْفِرْ
 لِدُنُوبِنَا مَاذَا نَعْلَمُ وَمَاذَا لَا نَعْلَمُ يَا رَحِيمُ
 وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ
 لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَاقْضِ كُلَّ

حَاجَاتِنَا وَانْصُرْنَا أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ
 وَتُسَلِّمَ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا نَصْرَتِكَ
 وَقُدْرَتِكَ وَأَوَّلِ خَلْقَتِكَ وَرَحْمَتِكَ فِي الْمَكَانِ
 وَاللَّامَكَانِ وَعَظَمَتِكَ وَقُوَّتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ
 وَشَرِيْعَتِكَ وَطَرِيقَتِكَ وَمَعْرِفَتِكَ
 وَحَقِيقَتِكَ وَنِعْمَتِكَ وَفَحْبَتِكَ وَعِزَّتِكَ
 وَرَافِعِ الدَّرَجَاتِ وَمُصَحِّحِ الْحَسَنَاتِ
 وَصَاحِبِ الْمُعْجَزَاتِ وَالْبَيِّنَاتِ وَإِمَامِ
 الْمُتَّقِينَ وَإِمَامِ الْمُتَوَكِّلِينَ وَخَاتَمِ
 النَّبِيِّينَ وَوَسِيْلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ
 اللَّهِ وَعَلَى وَآلِهِ وَآهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ
 وَكُلِّ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالشُّهَدَاءِ

وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْمَلَائِكِ وَالْأُمَّمِ كُلِّ الْحَالِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہے، اے اللہ تو ہی اللہ ہے کیوں نہیں اللہ کی قسم نہیں کوئی معبود مگر یہ کہ تو ہی اللہ ہے، اللہ بہت بڑائی والا ہے، اللہ مضبوطی والا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ بلندی والا ہے، اللہ بدلہ لینے والا ہے، اللہ مکمل کرنے والا ہے، ساری بادشاہت اسی کے لئے ہے، ساری تعریف اسی کے لئے ہے، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہے، اے توبہ کی توفیق دینے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، ہمارے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو ہمیں معلوم ہیں اور وہ بھی جو ہمیں نہیں معلوم ہیں، اے رحم کرنے والے تو ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں سے بنا دے جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، تو ہماری تمام حاجتوں کو پوری فرما اور ہماری مدد فرما میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار

ہمارے مولیٰ اپنی مدد، اپنی قدرت، اپنی پہلی خلقت، مکان و لامکان میں تیری رحمت، تیری عظمت، تیری قوت، تیری بخشش، تیری شریعت، تیری طریقت، تیری معرفت، اور تیری حقیقت، تیری نعمت، تیری محبت، اور تیری عزت، درجات کے بلند فرمانے والے، نیکیوں کو درست کرنے والے، معجزوں اور دلیلوں والے، پرہیزگاروں کے امام، توکل والوں کے امام، تمام انبیاء میں آخری اور دونوں جہان میں ہمارے وسیلہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اہل بیت اور اصحاب پر تمام انبیاء و رسولوں پر، تمام شہداء اور اولیاء پر، تمام فرشتوں اور امتیوں پر ہر دم تیری تمام معلوم تعداد کے مطابق۔

तर्ज मा: अल्लाह के नाम से शुरू जो तौबा कबूल फरमाने वाला बड़ा मेहरबान है, ऐ अल्लाह तू ही अल्लाह है क्यों नहीं अल्लाह की कसम नहीं कोई मज़बूद मगर यह कि तू ही अल्लाह है, अल्लाह बहुत बड़ाई वाला है, अल्लाह मज़बूती वाला है, अल्लाह हिफ़ाज़त करने वाला है, अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह

मोहब्बत, और तेरी इज्जत, दरजात के बुलंद फरमाने वाले, नेकियों को दुरुस्त करने वाले, मोअजिजों और दलीलों वाले, परहेजगारों के इमाम, तवक्कुल वालों के इमाम, तमाम अम्बिया में आखिरी और दोनों जहान में हमारे वसीला अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर और आप ﷺ के वालिदैन पर, और आप ﷺ की आल व अहले बैत और अस्हाब पर, तमाम अम्बिया व रसूलों पर, तमाम शोहदा और औलिया पर, तमाम फिरिशतों और तमाम उम्मतियों पर, हर दम तेरी तमाम मअलूम तअदाद के मुताबिक।

(ث) آبی

صَلْوَةُ الشَّاءِ الْأَرْبَعِينَ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ غِيَاثِ الْمُسْتَعِيْثِيْنَ ۝ اللَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْوَارِثُ الْحَقُّ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ

बुलंदी वाला है, अल्लाह बदला लेने वाला है, अल्लाह मोकम्मल करने वाला है, सारी बादशाहत उसीके लिए है, सारी तअरीफ उसी के लिए है, वह ज़िन्दा करता और मारता है, मैं तुझ से सवाल करता हूँ बेशक तूही तौबा कबूल फरमाने वाला बड़ा मेहरबान है, ऐ तौबा की तौफीक देने वाले, ऐ तौबा कबूल करने वाले, हमारे उन तमाम गुनाहों को बख्श दे जो हमें मअलूम हैं और वह भी जो हमें नहीं मअलूम हैं, ऐ रहम करने वाले तू हमें अपने उन नेक बन्दों में से बनादे जिन्हें ना कोई खौफ है और न कोई ग़म, तू हमारी तमाम हाजतों को पूरी फरमा और हमारी मदद फरमा, मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि तू खूब खूब दुरुदो सलाम नाज़िल फरमा हमारे सरदार हमारे मौला अपनी मदद अपनी कुदरत, अपनी पहली खिल्कत, मकान व लामकाँ में तेरी रहमत, तेरी अज़मत, तेरी कुव्वत, तेरी बख्शिश, तेरी शरीअत, तेरी तरीकत, तेरी मअरिफत, तेरी हकीकत, तेरी नेअमत, तेरी

يَا ثَابِتُ ثَبَّتْنِي عَلَى هَذَاكَ يَا اللَّهُ الْبَاعِثُ
يَا اللَّهُ الْخَالِقُ الْغَوْثُ يَا اللَّهُ الْمَوْجُودُ الْمُبْعِثُ
أَغْنِنِي وَأَمِدِدْنِي وَأَنْصُرْنِي بِكَرَمِكَ الْعَظِيمِ
وَأَحْفَظْنِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ مَاذَا تَعَلَّمُ وَعُدْنِي مِنَ
الشَّيْطَانِ وَجُنُودِهِ وَارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحَبَّ
حَبِيبِكَ أَسْئَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَيَّ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا ثَنَائِكَ وَسَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ
وَصَاحِبِ الشَّرِيعَةِ الْمَثَلِيِّ وَصَاحِبِ
الطَّرِيقَةِ الْمَثَلِيِّ وَصَاحِبِ الْمَعْرِفَةِ الْمَثَلِيِّ
وَصَاحِبِ الْحَقِيقَةِ الْمَثَلِيِّ وَصَاحِبِ الْكَوْثَرِ
وَالنَّجْمِ الثَّاقِبِ وَأَفْضَلِ النَّبِيِّينَ ثَوَابًا
وَأَكْثَرِ النَّبِيِّينَ طَاعَةً وَسَمْعًا وَأَكْثَرِ النَّاسِ

بِرًّا وَأَكْثَرِ النَّاسِ خَيْرًا وَأَكْثَرِ النَّاسِ عِلْمًا
وَحِكْمَةً وَأَكْثَرِ النَّاسِ سِرًّا وَأَكْثَرِ النَّاسِ
جَمِيلًا وَأَكْثَرِ النَّاسِ عِزًّا وَشَرَفًا وَأَكْثَرِ
النَّاسِ رَحْمًا وَكَرَمًا وَأَكْثَرِ النَّاسِ مَقَامًا
وَأَكْثَرِ النَّاسِ فَضْلًا وَجُودًا وَأَكْثَرِ النَّاسِ
حَمْدًا وَشُكْرًا وَأَكْثَرِ النَّاسِ ذِكْرًا وَفِكْرًا
وَالْمُبْعُوثِ بِالْحَقِّ وَثَمَالِ الْخَلْقِ وَالْمُبْعُوثِ
إِلَى الْخَلْقِ وَثَانِيِ اثْنَيْنِ وَعُرْوَتِكَ الْوُثْقَى
وَمُدَّتْرِكَ وَكَثِيرِ الرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَاتِ وَمُهَيِّدِ
الثَّقَلَيْنِ وَكُلِّ الْخَلْقِ وَالِدَاعِيِ إِلَى اللَّهِ مُحَمَّدٍ
رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى وَآلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَكُلِّ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالشُّهَدَاءِ

وَالْأَوْلِيَاءِ وَهُمِ الدِّينِ الْبَارِ الْأَشْهَبِ
 الْغَوِثِ الْأَعْظَمِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ
 الْجِيلَانِيِّ وَالِهِ وَالْحَوَاجَةِ مُعِينِ الدِّينِ وَالِهِ
 وَالسَّيِّدِ أَحْمَدَ الْأَبْدَالِ وَالسَّيِّدِ الْمَخْدُومِ
 أَحْمَدَ وَلِيِّ اللَّهِ وَحَوَارِيِّ وَلِيِّ اللَّهِ وَالِهِ وَكُلِّ
 الْمَلَائِكِ وَالْأَمَمِ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَيْنِ أَجْمَعَيْنِ كُلِّ الْحَالِ بِعَدَدِ كُلِّ
 مَعْلُومٍ لَكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچنے والا ہے، اللہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہ جو مالک ہے، وارث ہے، حق ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ، اے قائم رہنے والے، تو مجھے اپنی ہدایت پر ثابت رکھ، اے اللہ بھیجنے والے، اے اللہ خلقت فرمانے والے، مددگار، اے اللہ موجود فریاد کو پہنچنے والے تو میری

فریاد کو پہنچ میری امداد فرما اور میری مدد کرا اپنے عظیم کرم کے واسطے سے اور میری حفاظت فرما ان تمام شروں سے جو تیرے علم میں ہیں اور مجھے شیطان اور اس کے لشکریوں سے پناہ میں لے لے، اور مجھے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار، ہمارے مولیٰ، تیری ثناء، جن وانس کے سردار، افضل شریعت والے، افضل طریقت والے، افضل معرفت والے افضل حقیقت والے، کوثر والے، روشن ستارہ، تمام انبیاء میں افضل ثواب کے اعتبار سے، تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اطاعت و فرما برداری والے، لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی والے، لوگوں میں سب سے زیادہ بھلائی والے، لوگوں میں سب سے زیادہ علم و حکمت والے، لوگوں میں سب سے زیادہ راز والے، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت و مرتبہ والے، لوگوں میں سب سے زیادہ رحم و کرم والے، لوگوں میں سب سے زیادہ مقام والے، لوگوں میں سب سے زیادہ فضل و سخاوت والے، لوگوں میں سب سے زیادہ حمد و شکر والے، لوگوں میں سب سے زیادہ ذکر و فکر والے، حق کے ساتھ بھیجے

مجھے अपनी हिदायत पर साबित रख, ऐ अल्लाह भेजने वाले, ऐ अल्लाह खिलकत फरमाने वाले, मददगार, ऐ अल्लाह मौजूद, फरयाद को पहुँचने वाले, तू मेरी फरयाद को पहुँच मेरी इम्दाद फरमा, और मेरी मदद कर, अपने अजीम करम के वास्ते से और मेरी हिफ़ाज़त फरमा उन तमाम शरों से जो तेरे इल्म में हैं, और मुझे शैतान और उसके लश्करियों से पनाह में लेले, और मुझे अपनी और अपने हबीब ﷺ की मोहब्बत अता फरमा, मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि तू खूब खूब दरूदो सलाम नाज़िल फरमा हमारे सरदार हमारे मौला तेरी सना जिन्न व इन्स के सरदार, अफ़ज़ल शरीअत वाले, अफ़ज़ल तरीक़त वाले, अफ़ज़ल मअरिफ़त वाले, अफ़ज़ल हकीक़त वाले, कौसर वाले, रौशन सितारा, तमाम अम्बिया में अफ़ज़ल सवाब के एअतेबार से, तमाम अम्बिया में सब से ज़्यादा एताअत व फरमाँ बरदारी वाले, लोगों में सब से ज़्यादा नेकी वाले, लोगों में सब से ज़्यादा भलाई वाले,

ہوئے، مخلوق کے فریادرس، خلق کی طرف بھیجے ہوئے، دو میں سے دوسرے، تیری مضبوط گرہ اور تیرے مدثر (کپڑے میں لپٹنے والے) بہت زیادہ رحمت و برکت والے، جن و انس اور تمام مخلوق کی مدد کرنے والے، اور اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کے رسول محمد ﷺ پر اور آپ ﷺ کے والدین پر، اور آپ ﷺ کی آل و اہل بیت اور اصحاب پر تمام انبیاء و رسولوں پر، تمام شہداء اور اولیاء پر اور شیخ عبدالقادر جیلانی پر، آپ کی آل پر اور خواجہ معین الدین پر اور آپ کی آل پر اور سید احمد ابدال پر اور سید محمود احمد ولی اللہ پر، آپ کے تمام روحانی اصحاب پر اور آل پر، تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر تمام آسمان وزمین والوں میں سے ہر دم تیری تمام معلوم تعداد کے مطابق اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان تیری رحمت کا واسطہ ہے۔

تارجما: اल्लाھ کے نام سے शुरूअ जो फरयाद करने वालों की फरयाद को पहुँचने वाला है, अल्लाह है नहीं कोई मअबूद मगर वह जो मालिक है, वारिस है, हक़ है, मैं तुझ से सवाल करता हूँ ऐ अल्लाह, ऐ काएम रहने वाले, तू

आल पर और ख्वाजा मोईनुद्दीन पर और आप की आल पर, और सय्यिद अहमद अब्दाल पर, और सय्यिद मख़दूम अहमद वलीयुल्लाह पर और आप के तमाम रुहानी अस्हाब पर और आल पर, और तमाम फ़िरिश्तों और तमाम उम्मतियों पर, तमाम आस्मान व ज़मीन वालों में से हर दम तेरी तमाम मअलूम तअदाद के मुताबिक़ ऐ तमाम रहम करने वालों में सब से ज़्यादा मेहरबान तेरी रहमत का वास्ता है।

(ख) खाकी

صَلَاةُ النَّجَاءِ الْأَرْبَعِينَ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْخَالِقِ الْبَارِعِ الْمُبْصِرِ ۝ اللَّهُ
الْخَلَّاقُ الْأَوَّلُ الْأَخِيرُ اللَّهُ اللَّطِيفُ الْحَبِيبُ اللَّهُ
الْمُقَدِّمُ الْمُوَخِّرُ اللَّهُ الْمُخْرِجُ مِنْ كُلِّ شَرٍّ

लोगों में सब से ज़्यादा इल्म व हिक्मत वाले, लोगों में सब से ज़्यादा राज़ वाले, लोगों में सब से ज़्यादा खूबसूरत, लोगों में सब से ज़्यादा इज्जत व मर्तबा वाले, लोगों में सब से ज़्यादा रहम व करम वाले, लोगों में सब से ज़्यादा मक़ाम वाले, लोगों में सब से ज़्यादा फ़ज्ल व सखावत वाले, लोगों में सब से ज़्यादा हम्दो शुक्र वाले, लोगों में सब से ज़्यादा ज़िक्र व फ़िक्र वाले, हक़ के साथ भेजे हुए, मख़्लूक के फ़रयाद रस, खल्क की तरफ़ भेजे हुए, दो में से दूसरे, तेरी मज़बूत गिरह और तेरे मुद्दस्सिर (कपड़े में लिपटने वाले) बहुत ज़्यादा रहमत व बरकत वाले, जिन्न व इन्स और तमाम मख़्लूक की मदद करने वाले, और अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाले अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर और आप ﷺ के वालिदेन पर, और आप ﷺ की आल व अहले बैत और अस्हाब पर, तमाम अम्बिया व रसूलों पर, तमाम शोहदा और औलिया पर, और शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी पर, आप की

اللَّهُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَنَا فِي
 مَرْضِيَّتِكَ وَتُنَجِّنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَتُعْطِينَا
 مِنْ لَدُنْكَ خَيْرًا كَثِيرًا وَتُخَفِّضَ الشَّيْطَانَ
 الرَّجِيمَ وَتَرْزُقَ قُلُوبَنَا لَطَافَةَ حُبِّكَ
 بِلُطْفِكَ الْعَظِيمِ وَتُوَهِّلَنَا بِالْخَيْرِ الْإِلَهَامِيِّ
 وَتُعْطِينَا مَحَبَّتَكَ وَرِضَاكَ وَقُرْبَتَكَ
 وَبَرَكَتَكَ وَسَلَامَةَ الْإِيمَانِ مِنَ الْأَوَّلِ إِلَى
 الْآخِرِ وَتَنْوِرَ صُورَتَنَا الَّتِي خَلَقْتَهَا
 بِنُورِ مَحَبَّتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَيَّ
 سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ وَأَسْعِدِ خَلْقِ
 اللَّهِ وَأَفْضَلِ خَلْقِ اللَّهِ وَأَحْسَنِ خَلْقِ اللَّهِ
 وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْآخِرِينَ

وَدَلِيلِ الْخَيْرَاتِ وَأَمِينِ خَزَائِنِ الرَّحْمُوتِ
 وَأَشْرَفِ الْمَخْلُوقَاتِ وَبَابِ الْخَيْرَاتِ
 وَخَلِيلِ الرَّحْمَنِ وَالْمَخْصُوصِ بِالْمَجْدِ
 وَالشَّرَفِ وَالْفَضْلِ وَالْمَخْصُوصِ بِالْخِلَافَةِ
 الْكُبْرَى وَالْمُخْتَصِّ بِالسِّرِّ الْأَخْفَى وَخَزِينَةِ
 رَحْمَتِكَ وَفَخْرِ مَوْجُودَاتِكَ وَسَيِّدِ الْأَبْرَارِ
 وَالْأَخْيَارِ وَرُوحِ كُلِّ الْخَلَائِقِ وَذِي خُلُقِ
 عَظِيمٍ وَمَخْزَنِ عُلُومِكَ الْمَكْنُونِ
 وَخَلِيفَتِكَ الْأَرْحَمِ وَسَيِّدِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وَخَطِيبِ كُلِّ الْخَلَائِقِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ
 وَعَلَى وَآلِهِ وَآهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَكُلِّ
 الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ

وَالْمَلَائِكِ وَالْأُمَمِ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِينَ أَجْمَعِينَ كُلِّ الْحَالِ بِعَدَدِ كُلِّ

مَعْلُومٍ لَكَ بِرَحْمَتِكَ يَا خَيْرَ الرَّاحِمِينَ ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو خالق ہے بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اللہ بہت خلقت فرمانے والا ہے، اول ہے، آخر ہے، اللہ لطف فرمانے والا ہے، بڑا خبردار ہے، اللہ آگے کرنے والا ہے پیچھے کرنے والا ہے، اللہ ہر بُرائی سے نکالنے والا ہے، اللہ پست کرنے والا ہے بلند کرنے والا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو ہمیں اپنی خوشنودی میں بلند فرما دے اور ہمیں تمام شرور سے نجات بخش دے ہمیں اپنے پاس سے خیر کثیر عطا فرما اور شیطان مردود کو پست کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کی لطافت عطا فرما اپنے لطف عظیم سے اور ہمیں الہامی خیر کا اہل بنا دے، ہمیں اپنی محبت، اپنی رضا، اپنے قربت، اپنی برکت اور اول سے آخر تک ایمان کی سلامتی عطا فرما اور ہماری اس صورت کو جس کو تو نے بنایا ہے اپنی محبت کے نور سے روشن فرما دے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار ہمارے مولیٰ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، اللہ کی مخلوق

میں سب سے خوش بخت، اللہ کی مخلوق میں افضل، اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھے، تمام انبیاء میں آخری، اول و آخر لوگوں کے سردار، بھلائیوں کی دلیل، رحمت کے خزانوں کے امین، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بزرگ، بھلائیوں کے دروازہ، رحمن کے خلیل، بزرگی و شرافت اور فضیلت سے مخصوص، خلافت کبریٰ سے مخصوص، پوشیدہ راز سے خاص کئے ہوئے، تیری رحمت کا خزانہ، تیری موجودات کا فخر، ابرار و انبیاء کے سردار، مخلوقوں کی جان، عظیم اخلاق والے، تیرے پوشیدہ علموں کا مخزن، تیرے نہایت مہربان خلیفہ، دنیا و آخرت کے سردار، تمام مخلوقوں کے خطیب اللہ کے رسول محمد ﷺ پر اور آپ ﷺ کے والدین پر، اور آپ ﷺ کی آل و اہل بیت اور اصحاب پر تمام انبیاء و رسولوں پر، تمام شہداء اور اولیاء پر، تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر تمام آسمان و زمین والوں میں سے ہر دم تیری تمام معلوم تعداد کے مطابق اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر تیری رحمت کا واسطہ ہے۔

تَرْجَمَا: अल्लाह के नाम से शुरू जो ख़ालिक है बनाने वाला है, सूरत बनाने वाला है, अल्लाह बहुत ख़िल्कत फ़रमाने वाला है, अव्वल है, आख़िर है, अल्लाह लुत्फ़ फ़रमाने वाला है, बड़ा ख़बरदार है, अल्लाह आगे करने वाला है, पीछे

आखिरी, अब्बल व आखिर लोगों के सरदार, भलाईयों की दलील, रहमतों के खज़ानों के अमीन, तमाम मख़्लूक में सब से ज़्यादा बुजुर्ग, तमाम भलाईयों के दरवाज़ा, रहमान के ख़लील, बुजुर्गी व शराफ़त और फ़ज़ीलत से मख़सूस, ख़िलाफ़ते कुब्रा से मख़सूस, पोशीदा राज़ से खास किए हुए तेरी रहमत का ख़ज़ाना, तेरी मौजूदात का फ़ख़र, अब्बार व अख़्यार के सरदार, मख़्लूकों की जान, अज़ीम अख़्लाक वाले, तेरे पोशीदा इल्मों का मख़ज़न, तेरे निहायत मेहरबान ख़लीफ़ा, दुनिया व आखिरत के सरदार, तमाम मख़्लूकों के ख़तीब अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर और आप ﷺ के वालिदैन पर, और आप ﷺ की आल व अहले बैत और अस्थाब पर, तमाम अम्बिया व रसूलों पर, तमाम शोहदा और औलिया पर, तमाम फ़िरिश्तों और तमाम उम्मतियों पर, तमाम आस्मान व ज़मीन वालों में से हर दम तेरी तमाम मअलूम तअदाद के मुताबिक़ ऐ तमाम रहम करने वालों में सब से बेहतर तेरी रहमत का वास्ता है।

करने वाला है, अल्लाह हर बुराई से निकालने वाला है, अल्लाह पस्त करने वाला है, बुलंद करने वाला है, मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि तू हमें अपनी खुश्नूदी में बुलंद फ़रमादे और हमें तमाम शरों से नजात बख़्श दे, हमें अपने पास से ख़ैरे कसीर अ़ता फ़रमा और शैतान मर्दूद को पस्त करदे, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत की लताफ़त अ़ता फ़रमा अपने लुत्फ़े अज़ीम से, और हमें इल्हामी ख़ैर का अहल बना दे, हमें अपनी मोहब्बत, अपनी रेज़ा, अपनी कुर्बत, अपनी बरकत, और अब्बल से आखिर तक ईमान की सलामती अ़ता फ़रमा और हमारी इस सूरत को जिस को तू ने बनाया है अपनी मोहब्बत के नूर से रौशन फ़रमा दे, मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि तू ख़ूब ख़ूब दुरूदो सलाम नाज़िल फ़रमा हमारे सरदार हमारे मौला अल्लाह की मख़्लूक में सब से बेहतर, अल्लाह की मख़्लूक में सब से खुश बख़्त, अल्लाह की मख़्लूक में अफ़ज़ल, अल्लाह की मख़्लूक में सब से अच्छे, तमाम अम्बिया में

پنجشنبه (جمعرات)

(۵) آتش

صَلَاةُ الْهَاءِ الْأَرْبَعِينَ بِدُونِ النُّقْطَةِ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْمُعْطَى الْهَادِي ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ أَسْأَلُكَ أَيُّ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَوْلَانِي مَسُودِ كُلِّ ظَاهِرٍ وَ
مَسُودِ كُلِّ مُظْهِرٍ وَحَمْدِ اللَّهِ وَرَحْمِ اللَّهِ وَكَرَمِ
اللَّهِ وَهُدَى اللَّهِ وَأَمْرِ اللَّهِ وَصِرَاطِ اللَّهِ وَسِرِّ
اللَّهِ وَالدَّاعِي إِلَى اللَّهِ وَطَوْعِ اللَّهِ وَلَبَّحِ اللَّهِ

وَكَلَامِ اللَّهِ وَكَمَالِ اللَّهِ وَعِلْمِ اللَّهِ وَعَطَاءِ اللَّهِ
وَعُلُوِّ اللَّهِ وَمُرَادِ اللَّهِ وَوُدِّ اللَّهِ وَمَدْحِ اللَّهِ
وَمَسْعُودِ اللَّهِ وَوَلِيِّ اللَّهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى
وَالِدِهِ وَأُمِّهِ وَآلِهِ وَالْمَوْلَى عَلِيِّ وَوَلَدَتِي عَلِيٍّ وَ
أُمَّهَاتِي وَحَمِيَّ الْإِسْلَامِ وَوَالِي الْإِسْلَامِ وَ
مَوْلَانِي أَحْمَدَ وَلِيَّ اللَّهِ وَخَوَارِجِي وَلِيَّ اللَّهِ وَكُلِّ
الْمَلَائِكِ وَأُمَمِ رَسُولِ اللَّهِ كُلِّ الْحَالِ سَلَامًا
مَعَهُ أَدِمَّ كَرَمَكَ عَلَى كُلِّ رَهْطِ رَسُولِكَ ۝

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو عطا کرنے والا ہدایت دینے والا ہے، اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ اللہ اور اللہ ہی ہے، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا تو خوب خوب درود و سلام نازل فرما میرے مولیٰ تمام پاک لوگوں کے سردار، تمام پاکیزہ لوگوں کے سردار، اللہ کی حمد، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کی ہدایت، اللہ کا امر، اللہ کا راستہ، اللہ کا راز، اللہ کی طرف

پاکیجا لوگوں کے سرदार، اﷲ کی ہمد، اﷲ کی رھمت، اﷲ کا کریم، اﷲ کی ہدایت، اﷲ کا امیر، اﷲ کا راستا، اﷲ کا راج، اﷲ کی طرف بولانے والے، اﷲ کے فرماؤں بربدار، اﷲ کے نور، اﷲ کا کلام، اﷲ کا کمال، اﷲ کا علم، اﷲ کی عطا، اﷲ کی بلندی، اﷲ کی مراد، اﷲ کی محبت، اﷲ کی تعریف، اﷲ کے خوش بخت، اور اﷲ کے دوست اﷲ کے رسول محمد ﷺ پر اور آپ ﷺ کے والد پر، اور آپ ﷺ کی والدہ پر، آپ ﷺ کی آل و اولاد پر اور سیدی مولیٰ علی مرتضیٰ پر اور مولیٰ علی کے دونوں لاڈلوں امام حسن اور امام حسین پر اور سیدہ فاطمہ زہرا پر اور اسلام کے زندہ کرنے والے شیخ عبدالقادر جیلانی پر، اور اسلام کے مددگار خواجہ معین الدین پر اور سید مخدوم احمد ولی اﷲ پر آپ کے تمام روحانی اصحاب پر تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر ہر دم، ایسا درود کہ جس کی برکت سے تو اپنے حبیب ﷺ کی تمام امت پر اپنے کرم کو دائمی فرمادے۔

تارجمان: اﷲ کے نام سے شروع جو اُتار کرنے والا ہدایت دینے والا ہے، اﷲ ہے اﷲ کے سوا کوئی اُتار دینے والا نہیں ہے، اﷲ سے سوال کرتا ہوں اﷲ اﷲ اور اﷲ ہی ہے، کوئی مابود اﷲ کے سوا تو خوب خوب دُردو سلام نازل فرما میرے مولا تمام پاک لوگوں کے سردار، تمام

تماما उम्मतियों पर हर دم ऐसा दुखद कि जिस की बरकत से तू अपने हबीब ﷺ की تماما उम्मत पर अपने करम को दाइमी फरमादे।

(و) بادی

صَلْوَةُ الْوَاوِ الْأَرْبَعِينَ

بِدُونِ النُّقْطَةِ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْوَاوِيِّ الْوَاوِيِّ ○ اللَّهُمَّ أَسْئَلُكَ
اللَّهُ الْوَاحِدُ اللَّهُ الْوَدُودُ اللَّهُ الْوَاسِعُ صَلِّ
سَلِّمْ دَوَامًا عَلَى مَوْلَانِي وَدِدِ اللَّهِ وَوَلِيِّ اللَّهِ وَالِ
اللَّهُ وَسِعَ اللَّهُ طَوَّعَ اللَّهُ حَامِلِ لِيَاءِ مُحَمَّدٍ اللَّهِ
مَحْمُودِ اللَّهِ دَاعِ الْأَرْوَاحِ إِلَى عَالَمِهِ هُوَ الْمَوْلَى
لِكُلِّ الْعَالَمِ أَطَّلَعَ اللَّهُ عَلَى عُلُومِهِ أَحَاطَ كُلُّ

الْأُمُورِ عَلَيْهِ كُلِّ مَاسِطِرِ اللَّوْحِ الْبَعْضُومُ
سَائِرِ عَالَمِ اللَّاهُ وَالْأُوهَا هُوَ أَرَاهُ اللَّهُ طَوَّاعَهُ
سَوَاطِعَهُ أَوَّلِ الرُّسُلِ أَكْرَمِ كُلِّ الْعَوَالِمِ
الْمُؤْصِلِ لِدَارِ السَّلَامِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى
وَالِدِهِ عَلَى أُمِّهِ عَلَى إِلِهِ عَلَى الْمَوْلَى عَلِيٍّ عَلَى
وَلَدَتِي عَلِيٍّ عَلَى أُمِّهَا عَلَى مَوْلَانِي مُحَمَّدِي
الْإِسْلَامِ عَلَى مَوْلَانِي وَإِلَى الْإِسْلَامِ عَلَى
مَوْلَانِي أَحْمَدَ وَوَلِيِّ اللَّهِ عَلَى حَوَارِيِّ وَوَلِيِّ اللَّهِ عَلَى
كُلِّ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الْأَمَمِ كُلِّ الْحَالِ سَلِّمْ مَعَهُ
إِرْحَمْ كُلَّ رَهْطِ مُكَرَّمِكَ أَمْدِيدُهُمْ مَعَ
كَرَمِكَ كُلِّ الْحَالِ ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو دوست رکھنے والا مددگار ہے، اے

(ز) آبی

صَلْوَةُ الرَّأْيِ الْأَرْبَعِينَ

○ مَعَ اسْمِ اللَّهِ الرَّزَاقِ ذِي الْقُوَّةِ الْمَتِينِ
 اللَّهُمَّ اسْأَلُكَ يَا عَزِيزُ تَعَزَّزْتَ بِالْعِزَّةِ
 وَالْعِزَّةُ فِي عِزَّةِ عِزَّتِكَ يَا عَزِيزُ يَا مُعِزُّ أُمَّةِ
 حَبِيبِكَ بِالدَّوَامِ يَا زَكِيُّ طَهَّرَ قُلُوبَ أُمَّةِ
 حَبِيبِكَ وَوَفَّقَهُمْ حَمْدَكَ وَشُكْرَكَ يَا خَيْرَ
 الرَّازِقِينَ أَرْزُقْ أُمَّةَ حَبِيبِكَ رِزْقًا حَلَالًا
 طَيِّبًا وَاسِعًا دَائِمًا يَا خَيْرَ الْمُنْزِلِينَ أَنْزِلْ
 عَلَى أُمَّةِ حَبِيبِكَ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُمَّ يَا مَزِيَّ
 يَا رَازِقُ اسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَيَّ

आलमे लाहूत, आलमे ग़ैब का सैर करने वाले हैं, अल्लाह ने आप ﷺ को अपने सारे अनवार व तजल्लियात दिखाए, तमाम रसूलों में अब्वल, सारे आलम में सब से बाइज्जत, जन्नत में पहुँचाने वाले अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर और आप ﷺ के वालिद पर, और आप ﷺ की वालिदा पर और आप ﷺ की आल व औलाद पर और सय्यिदी मौला अली मुर्तजा पर और मौला अली के दोनों लाडलों इमामे हसन और इमामे हुसैन पर और सय्यिदा फ़ातिमा ज़हरा पर और इस्लाम के जिन्दा करने वाले शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी पर, और इस्लाम के मददगार ख़्वाजा मोईनुद्दीन पर और सय्यिद मख़दूम अहमद वलीयुल्लाह पर आप के तमाम ख़हानी अख़्हाब पर, तमाम फ़िरिशतों और तमाम उम्मतियों पर हर दम ऐसा दूरूद कि जिस की बरकत से तू अपने मोकररम ﷺ की तमाम उम्मत पर रहम फ़रमा और उनकी इम्दाद फ़रमा अपने करम के साथ हर दम।

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا سَيِّدِ الزَّاهِدِينَ وَسَيِّدِ
 الْمُعَزَّزِينَ وَالصَّفُوحِ عَنِ الزَّلَّاتِ وَ
 الْمُخْصُوصِ بِالْعِزِّ وَصَاحِبِ الْمُعْجَزَاتِ
 وَصَاحِبِ الْأَزْوَاجِ الطَّاهِرَاتِ وَالْمُنَزَّلِ
 عَلَيْهِ الْآيَاتِ الْوَاضِحَاتِ وَذِي الْعِزِّ الْمُحَقَّقِ
 وَمَرْكَزِ مَدَارِ التَّوْفِيقِ وَمَرْكَزِ مَدَارِ الْجَمَالِ
 وَالْجَلَالِ وَالْكَمَالِ وَمُبِينِ عَظَمَةِ زَمْرَمِ
 وَطِرَازِ حُلَّةِ الْإِيْمَانِ وَالرَّسُولِ الزَّاهِدِ
 وَالرَّسُولِ الْمُزْمَلِ وَعَزِيْزِ الْحَضْرَةِ الصَّبِيَّةِ
 وَمُظْهِرِ عِزِّكَ وَسُلْطَنِكَ مُحَمَّدِ رَسُوْلِ اللَّهِ
 وَعَلَى وَآلِهِ وَآهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَكُلِّ
 الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ

وَالسَّيِّدِ مَوْلَانِي عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي وَآلِهِ
 وَالسَّيِّدِ مَوْلَانِي مُعِينِ الدِّينِ وَآلِهِ وَالسَّيِّدِ
 عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمَغْرِبِيِّ وَالسَّيِّدِ عَبْدِ
 الرَّحِيمِ الْمَشْرِقِيِّ وَالسَّيِّدِ عَبْدِ الْجَلِيلِ
 الْجُنُوبِيِّ وَالسَّيِّدِ عَبْدِ الرَّشِيدِ الشَّهْمَالِيِّ
 وَالسَّيِّدِ الْخَوَاجَةِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْخَضِرِ
 وَالسَّيِّدِ الْيَاسِ وَالْمُخَدُّومِينَ السَّادَاتِ
 أَشْيَاخِ أَرْبَعَةِ عَشَرَ وَآلِهِمْ وَكُلِّ الْمَلِكِ
 وَالْأَمَمِ مِنْ أَهْلِ السُّهُوتِ وَالْأَرْضِيْنَ
 أَجْمَعِينَ كُلِّ الْحَالِ صَلَوَةٌ تَغْفِرُ بِهَا لِي
 وَلِوَالِدَيْ وَلِئِنْ تَوَالَدَ وَلِئِنْ أَحْبَبَنِي وَجَبَّيْعِ
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ الْأَمْوَاتِ أَجْمَعِينَ
يَا سَمِيعَ الدُّعَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ۝

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت رزق دینے والا مضبوطی والا قوت والا ہے، اے ہمارے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے غلبہ و عزت والے تو معزز ہے عزت کے ساتھ اور عزت تیری عزت کی عزت میں ہے، اے غلبہ و عزت والے، اے عزت دینے والے، تو اپنے حبیب ﷺ کی امت کو دائمی طور پر عزت دے اے نہایت پاک تو اپنے حبیب ﷺ کی امت کے دلوں کو پاک فرما دے اور انہیں اپنی حمد اور اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اے رزق دینے والوں میں سب سے بہتر تو اپنے حبیب ﷺ کی امت کو دائمی کثرت و کثادگی والا پاکیزہ حلال رزق عطا فرما، اے اتارنے والوں میں سب سے بہتر تو اپنے حبیب ﷺ کی امت پر خیر کثیر نازل فرما، اے بہت پاک کرنے والے، اے رزق دینے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار ہمارے مولیٰ تمام زاہدوں کے سردار، تمام معزز لوگوں کے سردار، لغزشوں کو درگزر کرنے

والے، عزت کے ساتھ مخصوص، معجزوں والے، پاکیزہ ازواج والے، وہ جن پر واضح آیتیں اتاری گئیں، ثابت عزت والے، توفیق کے مدار کے مرکز، جمال و جلال اور کمال کے مدار کے مرکز، زمزم کی عظمت بیان کرنے والے، ایمان کے لباس کی خوبصورتی، زہد والے رسول، چادر میں لپٹنے والے رسول، بارگاہ صمدیہ کے عزیز، تیری عزت و سلطانی کے مظہر اللہ کے رسول محمد ﷺ پر آپ ﷺ کے والدین پر، آپ ﷺ کی آل و اہل بیت پر اور آپ ﷺ کے اصحاب پر تمام انبیاء اور رسولوں پر تمام شہداء اور اولیاء پر، شیخ عبدالقادر جیلانی پر، آپ کی آل پر اور خواجہ معین الدین پر، آپ کی آل پر اور سید عبدالکریم مغربی پر، سید عبدالرحیم مشرقی پر، سید عبدالجلیل جنوبی پر، سید عبدالرشید شمالی پر، سید خواجہ خضر پر اور حضرت الیاس پر اور حضرات مخدومین سادات چودہوں پیراں پر، اور ان کی آل پر تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر، تمام آسمان وزمین والوں میں سے ہر دم، ایسا درود کہ جس کی برکت سے میرے والدین کو بخش دے، اولاد کو بخش دے، محبت کرنے والوں کو بخش دے، تمام ایمان لانے والے مرد و عورت اور تمام مسلمان مرد و عورت، جو زندہ ہیں جو مردہ ہیں سب کو بخش دے، اے دعاء کے سننے والے اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان تیری

खूब दुखदो सलाम नाज़िल फ़रमा हमारे सरदार हमारे मौला तमाम जाहिदों के सरदार, तमाम मोअज़्ज़ज़ लोगों के सरदार, लगज़िशों को दरगुज़र करने वाले, इज़्ज़त के साथ मख़सूस, मोअज़िज़ों वाले, पाकीज़ा अज़वाज वाले, वह जिन पर वाज़ेह आयतें उतारी गईं, साबित इज़्ज़त वाले, तौफ़ीक़ के मदार के मर्कज़, जमाल व जलाल और कमाल के मदार के मर्कज़, ज़मज़म की अज़मत ब्यान करने वाले, ईमान के लिबास की खूबसूरती, जोहद वाले रसूल, चादर में लिपटने वाले रसूल, बारगाहे समदिया के अज़ीज़, तेरी इज़्ज़त व सुल्तानी मज़हर, अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर और आप ﷺ के वालिदैन पर, और आप ﷺ की आल व अहले बैत और अस्ह़ाब पर, तमाम अम्बिया व रसूलों पर, तमाम शोहदा और औलिया पर, और शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी पर, आप की आल पर और ख़्वाजा मोईनुद्दीन पर और आप की आल पर, और सय्यिद अब्दुल करीम मगरिबी पर, सय्यिद

رحمت کا واسطہ ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے اور تمام شکر اللہ ہی کے لئے ہے ہر حال میں۔

تارجمان: اल्लाھ کے نام سے शुरूअ जो बहुत रिज़्क़ देने वाला मज़बूती वाला कुव्वत वाला है, ऐ हमारे अल्लाह मैं तुझ से सवाल करता हूँ ऐ ग़ल्बा व इज़्ज़त वाले तू मोअज़्ज़ज़ है इज़्ज़त के साथ और इज़्ज़त तेरी इज़्ज़त की इज़्ज़त में है, ऐ ग़ल्बा व इज़्ज़त वाले, ऐ इज़्ज़त देने वाले, तू अपने हबीब ﷺ की उम्मत को दाइमी तौर पर इज़्ज़त दे, ऐ निहायत पाक तू अपने हबीब ﷺ की उम्मत के दिलों को पाक फ़रमादे और उन्हें अपनी हम्द और अपना शुक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा ऐ रिज़्क़ देने वालों में सब से बेहतर तू अपने हबीब ﷺ की उम्मत को दाइमी कुशादगी वाला पाकीज़ा हलाल रिज़्क़ अता फ़रमा, ऐ उतारने वालों में सब से बेहतर तू अपने हबीब ﷺ की उम्मत पर ख़ैरे कसीर नाज़िल फ़रमा, ऐ बहुत पाक करने वाले, ऐ रिज़्क़ देने वाले, मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि तू खूब

(ح) خاکی
 صَلَوةُ الْحَاءِ الْأَرْبَعِينَ
 بِدُونِ النَّقْطَةِ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْحَيِّ الْأَحَدِ ○ اللَّهُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ
 اللَّهُ الْوَاحِدُ الْمُحِصِي اللَّهُ الْمُحْيِي أَحْيِي رَوْعِي مَعَ
 اسْمِكَ الدَّائِمِ مَعَ وُدِّكَ وَرَسُولِكَ حَامِدٍ
 وَفَخْمُودٍ وَأَحْمَدٍ وَمُحَامِدٍ أَسْأَلُكَ أَيُّ إِلَهٍ فَحَمِيدٍ
 صَلَّى وَسَلَّمْ دَائِمًا سَرْمَدًا عَلَى مَوْلَائِي مُكَلِّمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَحُكْمِكَ وَجَلْبِكَ
 وَحَامِلِ لِيَوَاءِ حَمْدِكَ وَسَبِّكَ وَرَسُولِكَ
 الْأَرْحَمِ وَرَاحِمِ كُلِّ عَالَمِكَ وَرَوْحِ كُلِّ

अब्दुल रहीम मशरिकी पर, सय्यिद अब्दुल जलील जुनूबी पर, सय्यिद अब्दुरशीद शिमाली पर, सय्यिद ख्वाजा खिद्र (खिजर) पर और हज़रते इल्यास पर और हज़रते मख़्दूमिन सादाते चौदहों पीरों पर और उनकी आल पर, और तमाम फिरिश्तों और तमाम उम्मतियों पर, तमाम आस्मान व ज़मीन वालों में से हर दम ऐसा दुख्द कि जिस की बरकत से मेरे वालिदैन को बख़्श दे, औलाद को बख़्श दे, मोहब्बत करने वालों को बख़्श दे, तमाम ईमान लाने वाले मर्द व औरत और तमाम मुसलमान मर्द व औरत, जो ज़िन्दा हैं जो मुर्दा हैं सब को बख़्श दे, ऐ दुआ के सुनने वाले ऐ तमाम रहम करने वालों में सब से ज़्यादा मेहरबान तेरी रहमत का वास्ता है और तमाम तअरीफ़ अल्लाह ही के लिए है और तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए है हर हाल में।

الْعَوَالِمِ وَعَلَامِ أَسْرَارِ لَحْمٍ وَمَسْعُودِكَ
 الْأَحَدِ وَحَامِي الْأُمَمِ وَمَسُودِ كُلِّ حَامِدٍ
 وَوَدُودِكَ الْحَيِّ وَمُعَلِّمِ حِكْمِكَ وَحَاكِمِ كُلِّ
 أُمُورِكَ وَرَحْمَتِكَ الدَّائِمِي وَأَصْلِ أَدَمَ وَحَوَاءِ
 وَمَسُودِ كُلِّ صَالِحٍ وَمَوْلُودِ دَارِ الْحَرَمِ وَمَوْلَى
 دَارِ الْحَرَمِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى وَالِدِهِ
 وَأُمِّهِ وَآلِهِ وَأَهْلِ دَارِهِ وَكُلِّ حَوَارِي رَسُولِ
 اللَّهِ وَكُلِّ الرُّسُلِ وَكُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ وَمَوْلَائِي مُحَمَّدِي
 الْإِسْلَامِ وَآلِهِ وَوَالِي الْإِسْلَامِ وَآلِهِ وَ
 مَوْلَائِي أَحْمَدَ وَمَوْلَائِي أَحْمَدَ وَوَالِي اللَّهِ وَحَوَارِي
 وَوَالِي اللَّهِ وَكُلِّ الْمَلَائِكِ وَالْأُمَمِ كُلِّ الْحَالِ ○
 ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو زندہ رہنے والا لیکتا ہے، اللہ فیصلہ

فرمانے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اللہ ایک ہے، گھیرنے
 والا ہے، اللہ زندہ کرنے والا ہے، تو میرے دل کو اپنے دائمی اسم کے
 ساتھ زندہ فرمادے اپنی اور اپنے اس رسول کی محبت کے ساتھ جو حامد
 ہیں، محمود ہیں، احمد ہیں اور محمد ہیں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے محمد
 ﷺ کے معبود تو خوب خوب دائمی سردی درود و سلام نازل فرما
 میرے اس مولیٰ پر جو أَحْمَدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (تمام تعریف اللہ
 ہی کے لئے ہے ہر حال میں) کہنے والے ہیں اور تیرے حکم پر، تیری
 بردباری پر، تیری تعریف کا جھنڈا اٹھانے والے پر، تیرے راز، تیرے
 سب سے مہربان رسول، تیرے سارے عالم پر رحم کرنے والے،
 سارے عالم کی جان، حم کے رازوں کے جاننے والے، تیرے
 یکتا سعادت مند، امتیوں کی مدد کرنے والے، تمام تعریف کرنے
 والوں کے سردار، تیرے زندہ رہنے والے، بہت محبت کرنے
 والے، تیری حکمتوں کو سکھانے والے، تیرے سارے امور کے
 حاکم، تیری دائمی رحمت، آدم و حوا کی اصل، تمام نیک لوگوں کے
 سردار، دارالحرم کے مولود، مکہ کے مولیٰ، اللہ کے رسول محمد ﷺ پر اور
 آپ ﷺ کے والد پر، اور آپ ﷺ کی والدہ پر، آپ ﷺ کی
 آل و اولاد اور اہل بیت پر آپ ﷺ کے تمام اصحاب پر، تمام

والے، سارے آلام کی جان، حم (ہا میم) کے
 راجوں کے جاننے والے تیرے یکتا سآادت مند،
 उम्मतियों की मदद करने वाले, तमाम तअरीफ
 करने वालों के सरदार, तेरे ज़िन्दा रहने वाले,
 बहुत मोहब्बत करने वाले, तेरी हिकमतों को
 सिखाने वाले, तेरे सारे उमूर के हाकिम, तेरी
 दाइमी रहमत, आदम व हव्वा की अस्ल, तमाम
 नेक लोगों के सरदार, दाखल हरम के मौलूद,
 मक्का के मौला, अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ
 पर और आप ﷺ के वालिद पर, और आप
 ﷺ की वालिदा पर और आप ﷺ की आल व
 औलाद और अहले बैत पर आप ﷺ के तमाम
 अस्हाब पर, तमाम रसूलों और औलिया पर,
 दीन के ज़िन्दा करने वाले शैख अब्दुल कादिर
 जीलानी पर, आप की आल पर और दीन के
 मददगार ख्वाजा मोईनुद्दीन पर और आप की
 आल पर, ख्वाजा अहमद अब्दाल पर, और
 सथिद मख्दूम अहमद वलीयुल्लाह पर आप के
 तमाम रूहानी अस्हाब पर, तमाम फिरिश्तों और
 तमाम उम्मतियों पर, हर दमा।

رسولوں اور اولیاء پر، دین کے زندہ کرنے والے شیخ عبدالقادر جیلانی
 پر، آپ کی آل پر اور دین کے مددگار خواجہ معین الدین پر، آپ کی آل
 پر، خواجہ احمد ابدال پر اور سید مخدوم احمد ولی اللہ پر آپ کے تمام روحانی
 اصحاب پر تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر ہر دم۔

تارجما: اल्लाह के नाम से शुरू जो ज़िन्दा
 रहने वाला यक्ता है, अल्लाह फैसला फरमाने
 वाला है, इन्साफ करने वाला है, अल्लाह एक है,
 घेरने वाला है, अल्लाह ज़िन्दा करने वाला है, तू
 मेरे दिल को अपने दाइमी इस्म के साथ ज़िन्दा
 फरमादे, अपनी और अपने उस रसूल की
 मोहब्बत के साथ जो हामिद हैं, महमूद हैं,
 अहमद हैं, और मुहामिद हैं, मैं तुझ से सवाल
 करता हूँ ऐ मोहम्मद ﷺ के मअबूद तू खूब
 खूब दाइमी सरमदी दुरूदो सलाम नाज़िल फरमा
 मेरे उस मौला पर जो (तमाम तअरीफ अल्लाह
 ही के लिए है हर हाल में) कहने वाल हैं और
 तेरे हुक्म पर, तेरी बुर्दबारी पर, तेरी तअरीफ
 का झंडा उठाने वाले पर, तेरे राज, तेरे सब से
 मेहरबान रसूल, तेरे सारे आलम पर रहम करने

آدینه (جمع)

(ف) آتشی

صَلَوَةُ الْفَاءِ الْأَرْبَعِينَ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ ○ اللَّهُمَّ يَا
فَتَّاحُ تَفَتَّحْتَ بِالْفَتْحِ وَالْفَتْحُ فِي فَتْحِ
فَتْحِكَ يَا فَتَّاحُ يَا حَفِيفُ تَحَفَّفْتَ بِالْحِفْظِ
وَالْحِفْظُ فِي حِفْظِ حِفْظِكَ يَا حَفِيفُ يَا رَوْفُ يَا
عَفَّارُ يَا خَافِضُ يَا رَافِعُ يَا عَفُوُّ يَا نَافِعُ أَسْأَلُكَ
أَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا سَيِّدِ
الشَّافِعِينَ وَسَيِّدِ الْفَاضِلِينَ وَسَيِّدِ

الْحَافِظِينَ وَسَيِّدِ الْمَحْفُوظِينَ وَمِفْتَاحِ
الرَّحْمَةِ وَمِفْتَاحِ الْجَنَّةِ وَرَافِعِ الرَّتَبِ
وَأَفْضَلِ أَنْبِيَائِكَ وَنَبِيِّكَ الْمُصْطَفَى
وَالْمَخْصُوصِ بِالْخِلاَفَةِ الْكُبْرَى
وَالْمَخْصُوصِ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى وَمَحْبُوبِكَ
الْفَرْدِ فِي كُلِّ الْعَالَمِ وَسَيْفِ إِسْلَامِكَ
وَأَصْدَقِ الصَّادِقِينَ فِي كُلِّ حَالٍ مُحَمَّدٍ
رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى وَآلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَكُلِّ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالشُّهَدَاءِ
وَالْأَوْلِيَاءِ وَ الْمَلَائِكِ وَالْأُمَّمِ مِنْ أَهْلِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ أَجْمَعِينَ كُلِّ الْحَالِ
صَلَوَةٌ تَرزُقُ بِهَا أُمَّةٌ حَبِيبِكَ رِضْوَانَكَ

الدَّوَامَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَهَذَا الشَّهْرِ وَهَذَا
 الْأُسْبُوعِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ
 وَتَوْفِقَهُمْ بِهَا حَمْدًا مَّقْبُولًا وَشُكْرًا
 مُجَابًا وَتَقْضَىٰ بِهَا حَوَائِجُهُمْ يَا سَمِيعَ الدُّعَاءِ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ۝

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا لطف و کرم کرنے والا خبردار
 ہے، اے ہمارے اللہ اے بہت کھولنے والے تو نے فتح کے ساتھ
 کھولا اور فتح تیری فتح کی فتح میں ہے، اے بہت کھولنے
 والے، اے حفاظت فرمانے والے، تو نے محفوظ فرمایا حفاظت کے
 ساتھ اور حفاظت تیری حفاظت کی حفاظت میں ہے اے حفاظت
 فرمانے والے، اے بہت مہربان، اے بہت بخشنے والے، اے
 پست کرنے والے، اے بلند کرنے والے، اے معاف کرنے
 والے، اے نفع دینے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو خوب
 خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار ہمارے مولیٰ شفاعت

کرنے والوں کے سردار، فضیلت والوں کے سردار، حفاظت کرنے
 والوں کے سردار، محفوظ لوگوں کے سردار، رحمت کی کنجی، جنت کی کنجی،
 رتبوں کے بلند کرنے والے، تیرے تمام انبیاء میں افضل، تیرے
 چنے ہوئے نبی، خلافت کبریٰ سے مخصوص، شفاعت عظمیٰ سے
 مخصوص، سارے عالم میں تیرے یکتا محبوب، تیرے اسلام کی تلوار،
 ہر حال میں تمام سچوں میں سب سے سچے اللہ کے رسول محمد ﷺ پر
 آپ ﷺ کے والدین پر، آپ ﷺ کی آل و اہل بیت پر اور
 آپ ﷺ کے اصحاب پر تمام انبیاء اور رسولوں پر تمام شہداء اور
 اولیاء پر، اور تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر تمام آسمان و زمین
 والوں میں سے ہر دم۔ ایسا درود کہ جس کی برکت سے تو اپنے حبیب
 ﷺ کی امت کو اپنی دائمی خوشنودی عطا فرما اس سال میں اس
 مہینے میں اس ہفتے میں جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں اور
 انہیں مقبول حمد و شکر کی توفیق عطا فرما اور ان کی حاجتوں کو پوری فرما
 اے دعا کے سننے والے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے اور تمام
 شکر اللہ ہی کے لئے ہے ہر حال میں۔

तर्ज मा: अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा

महबूब, तेरे इसलाम की तलवार, हर हाल में तमाम सच्चों में सब से सच्चे, अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर और आप ﷺ के वालिदैन पर, आप ﷺ की आल व अहले बैत पर और आप ﷺ के अस्हाब पर, तमाम अम्बिया और रसूलों पर, तमाम शोहदा और औलिया पर, तमाम फिरिश्तों और तमाम उम्मतियों पर, तमाम आस्मान व ज़मीन वालों में से हर दमा। ऐसा दुखद कि जिस की बरकत से तू अपने हबीब ﷺ की उम्मत को अपनी दाइमी खुश्नूदी अता फ़रमा इस साल में इस महीने में इस हफ़्ते में जुमअ की रात में और जुमअ के दिन में और उन्हें मक्बूल हम्द व शुक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और उनकी हाजतों को पूरी फ़रमा ऐ दुआ के सुनने वाले और तमाम तअरीफ़ अल्लाह ही के लिए है और तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए है हर हाल में।

लुत्फ़ व करम करने वाला ख़बर दार है, ऐ हमारे अल्लाह, ऐ बहुत खोलने वाले तूने फ़तह के साथ खोला और फ़तह तेरी फ़तह की फ़तह में है, ऐ बहुत खोलने वाले, ऐ हिफ़ाज़त फ़रमाने वाले तूने महफूज़ फ़रमाया हिफ़ाज़त के साथ और हिफ़ाज़त तेरी हिफ़ाज़त की हिफ़ाज़त में है ऐ हिफ़ाज़त फ़रमाने वाले, ऐ बहुत मेहरबान, ऐ बहुत बख़्शने वाले, ऐ पस्त करने वाले, ऐ बुलंद करने वाले, ऐ मुआफ़ करने वाले, ऐ नफ़अ देने वाले, मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि तू खूब खूब दुखदो सलाम नाज़िल फ़रमा हमारे सरदार हमारे मौला शफ़ाअत करने वालों के सरदार, फ़ज़ीलत वालों के सरदार, हिफ़ाज़त करने वालों के सरदार महफूज़ लोगों के सरदार, रहमत की कुन्जी, जन्नत की कुन्जी, ख़ुशियों के बुलंद करने वाले, तेरे तमाम अम्बिया में अफ़ज़ल, तेरे चुने हुए नबी, ख़िलाफ़ते कुब्रा से मख़सूस, शफ़ाअते उज़्मा से मख़सूस, सारे आलम में तेरे यक्ता

(ص) بادی

صَلَاةُ الصَّادِ الْأَرْبَعِينَ

بِدُونِ النُّقْطَةِ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْبُحْصِيِّ الْبُصُورِيِّ ○ آمِنُ اللَّهُ
 الصَّبْدُ أَسْأَلُكَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا سَرْمَدًا
 عَلَى مَوْلَائِي مَسُودٍ كُلِّ صَاحِحٍ وَمَسُودٍ كُلِّ
 صَائِمٍ وَمَسُودٍ كُلِّ مُصَلٍّ وَمَسُودٍ كُلِّ
 وَاصِلٍ وَمَسُودٍ كُلِّ عَاصِمٍ وَمَسُودٍ كُلِّ
 مَعْصُومٍ وَصَادِعِ أَمْرِكَ وَرَسُولِكَ الصَّالِحِ
 وَعَلَامِ اللَّوْجِ الْبَعْصُومِ وَالْبُوصِلِ إِلَى اللَّهِ

وَمُسْلِكَ صِرَاطِكَ وَعَالِمِ مَاصَارِ
 وَمَا مَاصَارَ وَسِرِّ أَسْرَارِ النَّصِّ وَصَّ وَعَاصِمِ
 كُلِّ سُوءٍ وَمُضْعِدِ الْأُمَمِ وَمِضْعَادِ وَدَادِ
 وَصُعُودِ رُوحٍ وَمَضْدَرِ الْبَحَامِدِ وَالْمَبَارِمِ
 وَأَصْلِ كُلِّ الْعَالِمِ وَمُضْعِدِ لَوَامِعِ الْعِلْمِ
 وَمُرْصِصِ آسَاسِ الْكَلَامِ وَمُخْضِصِ
 أَمْرِكَ وَأَصْلِ أَسْرَارِكَ وَمُضْلِحِ أَسْرَارِ
 الصُّدُورِ وَعَالِمِ صُورِ الْأَرْحَامِ وَمُضْعِدِ
 الدُّعَاءِ وَصَاعِدِ سُرْرِ عُلُوكَ وَمُضْعِدِ لِيَوَاءِ
 السَّعْدِ وَهَجُورِ سَمَاءِ صَعُودِ وَمُضْعِدِ
 صُورِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى وَالِدِهِ وَأُمِّهِ وَإِلَيْهِ
 وَالْمَوْلَى عَلِيٍّ وَوَلَدَتِي عَلِيٍّ وَ أُمَّهَاتِي وَمَوْلَائِي

مُحْيِي الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ وَمَوْلَائِي وَإِلَى الْإِسْلَامِ
 وَاللَّهُ وَمَوْلَائِي أَحْمَدُ وَبِاللَّهِ وَحَوَارِيِّ بِلِيِّ اللَّهِ
 وَاللَّهُ وَكُلِّ الْمَلَكِ وَالْأُمَّةِ كُلِّ الْحَالِ ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو گھیرنے والا صورت بنانے والا ہے، اے بے نیاز اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو خوب خوب دائمی سرمدی درود و سلام نازل فرما میرے مولیٰ تمام نیکوں کے سردار، تمام روزہ داروں کے سردار، تمام نمازیوں کے سردار، تمام مقام وصل والوں کے سردار، تمام محفوظ رکھنے والوں کے سردار، تمام معصوموں کے سردار، تیرے امر کو کھلم کھلا بیان کرنے والے، تیرے نہایت نیک رسول، لوح محفوظ کے خوب جاننے والے، بارگاہ الہی میں پہنچانے والے، تیرے راستے پر چلانے والے، جو ہوا اور جو نہیں ہو اسب کے جاننے والے، البص اور ص کے رازوں کے راز، ہر برائی سے بچانے والے، امتیوں کو بلند کرنے والے، محبت کا زینہ، روح کی بلندی، خوبیوں اور بھلائیوں کے مصدر، سارے عالم کی اصل، علم کے انوار کو بلند کرنے والے، کلام کی بنیاد کو جڑنے

والے، تیرے حکم کو ظاہر کرنے والے، تیرے رازوں کی اصل، سینوں کے رازوں کو درست کرنے والے، ارحام (شکم مادر) کی صورتوں کو جاننے والے، دعاء کو بلند کرنے والے، تیری بلندی کے تحت پر چڑھنے والے، نیک بختی کے جھنڈے کو بلند کرنے والے، دشوار گزار گھاٹی کے آسمان کے مرکز، اور صورتوں کو بلند کرنے والے اللہ کے رسول محمد ﷺ پر اور آپ ﷺ کے والد پر، اور آپ ﷺ کی والدہ پر، آپ ﷺ کی آل و اولاد پر اور سیدی مولیٰ علی مرتضیٰ پر اور مولیٰ علی کے دونوں لاڈلوں امام حسن اور امام حسین پر اور سیدہ فاطمہ زہرا پر اور اسلام کے زندہ کرنے والے شیخ عبدالقادر جیلانی پر، آپ کی آل پر اور اسلام کے مددگار خواجہ معین الدین پر اور آپ کی آل پر اور سید مخدوم احمد ولی اللہ پر آپ کے تمام روحانی اصحاب پر اور آل پر تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر ہر دم۔

तर्जमा: अल्लाह के नाम से शुरू जो घेरने वाला सूरत बनाने वाला है, ऐ बेनियाज़ अल्लाह मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि तू खूब खूब दाइमी सरमदी दुरूदो सलाम नाज़िल फ़रमा मेरे मौला तमाम नेकों के सरदार तमाम रोज़ा दारों

पर, और आप ﷺ की वालिदा पर, आप ﷺ की आल व औलाद पर और सय्यिदी मौला अली मुर्तजा पर और मौला अली के दोनों लाडलों इमामे हसन और इमामे हुसैन पर और सय्यिदा फातिमा ज़हरा पर और इस्ताम के ज़िन्दा करने वाले शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी पर, आप की आल पर और इस्ताम के मददगार ख्वाजा मोईनुद्दीन पर और आप की आल पर और सय्यिद मख़दूम अहमद वलीयुल्लाह पर आप के तमाम रूहानी अस्हाब पर और आल पर, तमाम फ़िरिश्तों और तमाम उम्मतियों पर हर दमा।

(ق) आبی

صَلْوَةُ الْقَافِ الْأَرْبَعِينَ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْقَدِيمِ الْقَادِرِ ۝ أَسْأَلُكَ قَوْلَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَقَوْلِكَ الْحَقِّ وَنَحْنُ أَقْرَبُ

के सरदार तमाम नमाज़ीयों के सरदार, तमाम मक़ामे वस्ल वालों के सरदार, तमाम महफूज़ रखने वालों के सरदार, तमाम मअसूमों के सरदार तेरे अम्र को खुल्लम खुल्ला ब्यान करने वाले, तेरे निहायत नेक रसूल, लौहे महफूज़ के खूब जानने वाले, बार गाहे इलाही में पहुँचाने वाले, तेरे रास्ते पर चलाने वाले, जो हुवा और जो नहीं हुवा सब के जानने वाले, अलिफ़ लाम मीम साद और साद के राज़ों के राज़, हर बुराई से बचाने वाले, उम्मतियों को बुलंद करने वाले, कलाम की बुनियाद को जड़ने वाले, तेरे हुक्म को ज़ाहिर करने वाले, तेरे राज़ों की अस्ल, सीनों के राज़ों को दुरूस्त करने वाले, अर्हाम (शिकमे मादर) सूरतों को जानने वाले, दुआ को बुलंद करने वाले, तेरी बुलंदी के अर्श पर चढ़ने वाले, नेक बख़्ती के झंड़े को बुलंद करने वाले, बुलंदी के आस्मान के मर्कज़, और सूरतों को बुलंद करने वाले अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर और आप ﷺ के वालिद

إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ يَا قُدُّوسَ قَدِيسَ قَلْبِي
يَا قَوِي قَوِي وَأَبْعُدْ ضَعْفِي عَيْبِي وَأَوْنِي فِي
مَأْوَاكَ مِنْ قَهْرِكَ وَمِنْ الْيَوْمِ الَّذِي قُلْتَ
فِيهِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
يَا مُقْتَدِرُ أَعْطِنِي الْمَقَامَ الْفَائِي فِي الشَّيْخِ
عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ وَالْفَائِي فِي مُحَمَّدٍ رَسُولِ
اللَّهِ وَالْفَائِي فِي اللَّهِ وَالْبَاقِي بِاللَّهِ يَا مُنْتَقِمُ
إِنْتَقِمْ مِنْ عَدُوِّي إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ وَعُدُنِي
مِنْهُمْ يَا خَالِقَ أَرْزُقْنِي الْخُلُقَ الْعَظِيمَ يَا
قَابِلَ التَّوْبَةِ ائْتِنِي لِكُلِّ ذُنُوبِي مِنَ الصَّغِيرَةِ
وَالْكَبِيرَةِ وَتَقَبَّلْ تَوْبَتِي يَا مُقَدِّمُ قَدَمِي فِي
حُصُولِ مَرْضِيَّتِكَ بِحَضْرَتِكَ يَا بَاقِي أَنْتَ

الْبَاقِي ثَبِّتْنِي عَلَى صِرَاطِ أَوْلِيَائِكَ يَا قَرِيبُ
أَعْطِ قَلْبِي قُرْبَةَ حَمْدِكَ وَشُكْرِكَ وَذِكْرِكَ
وَفِكْرِكَ وَحُبِّكَ بِالذَّوَامِ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ
يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ يَا خَيْرَ الرَّازِقِينَ صَلِّ
وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا سَرْمَدًا عَلَى مَوْلَانِي
صَاحِبِ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوَّلًا وَآبِي الْقَاسِمِ
مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى وَآلِهِ وَأَهْلِ
بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَكُلِّ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ
وَالشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْمَلَائِكِ وَالْأُمَمِ مِنْ
أَهْلِ السَّبُوتِ وَالْأَرْضِينَ أَجْمَعِينَ كُلِّ الْحَالِ
يَا سَمِيعَ الدُّعَاءِ اسْمَعْ دُعَائِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ
لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو قدیم ہے قدرت والا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، حق مستم ہے قرآن مجید کی اور تیرا فرمان حق ہے اور ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اے نہایت پاک میرے دل کو پاک کر دے، اے قوت والے مجھے قوت بخش اور مجھ سے میری کمزوری کو دور کر دے اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے اپنے قہر سے اور اس دن سے جس کے بارے میں تو نے فرمایا آج کس کے لئے بادشاہت ہے یقیناً یکتا بہت قہر والے اللہ کے لئے ہے، اے بڑی قدرت والے تو مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی میں فنا ہونے والا اور محمد رسول اللہ میں فنا ہونے والا، اللہ میں فنا ہونے والا اور اللہ کے ساتھ باقی رہنے والا مقام عطا فرما دے، اے بدلہ لینے والے تو میرے دشمن ابلیس سے اور اس کے لشکر کیوں سے انتقام لے اور مجھے ان سے بچا لے، اے خلقت فرمانے والے تو مجھے عظیم اخلاق عطا فرما دے، اے توبہ کے قبول کرنے والے تو میرے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، اے آگے بڑھانے والے تو مجھے اپنی بارگاہ میں تیری مرضی حاصل کرنے میں پیش پیش کر دے، اے باقی رہنے والے تو باقی ہے تو مجھے اپنے دوستوں کے

راستے پر قائم فرما دے، اے قربت والے تو میرے دل کو اپنی دائمی حمد و شکر، اپنے دائمی ذکر و فکر اور اپنی دائمی محبت کی قربت عطا فرما، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، اے دلوں کے پلٹنے والے، اے رزق دینے والوں میں بہتر تو خوب خوب دائمی ابدی سرمدی درود و سلام نازل فرما میرے مولیٰ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہنے والے ابو القاسم اللہ کے رسول محمد ﷺ پر آپ ﷺ کے والدین پر، آپ ﷺ کی آل و اہل بیت پر اور آپ ﷺ کے اصحاب پر تمام انبیاء اور رسولوں پر تمام شہداء اور اولیاء پر، تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر تمام آسمان وزمین والوں میں سے ہر دم۔ اے دعا کے سننے والے میری دعاء کو سن لے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے اور تمام شکر اللہ ہی کے لئے ہے ہر حال میں، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

تَرْجَمَا: अल्लाह के नाम से शुरू जो कदीम है कुदरत वाला है, मैं तुझ से सवाल करता हूँ काफ़ कसम है कुअनि मजीद की और तेरा फरमान हक़ है और हम इन्सान की शहे रग से भी ज़्यादा करीब हैं ऐ निहायत पाक मेरे दिल

है तू मुझे अपने दोस्तों के रास्ते पर काएम फरमा दे, ऐ कुर्बत वाले तू मेरे दिल को अपनी दाइमी हम्द व शुक्र, अपनी दाइमी जिक्र व फिक्र और अपनी दाइमी मोहब्बत की कुर्बत अता फरमा, ऐ हाजतों के पूरा करने वाले, ऐ दिलों के पलटने वाले, ऐ रिज्क देने वालों में बेहतर तू खूब खूब दाइमी अबदी सरमदी दुरूदो सलाम नाज़िल फरमा मेरे मौला सब से पहले लाइलाहा इल्लल्लाह कहने वाले अबुल कासिम अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर और आप ﷺ के वालिदैन पर, और आप ﷺ की आल व अहले बैत पर और आप ﷺ के अस्हाब पर, तमाम अम्बिया व रसूलों पर, तमाम शोहदा और औलिया पर, तमाम फिरिश्तों और तमाम उम्मतियों पर, तमाम आस्मान व ज़मीन वालों में से हर दम ऐ दुआ के सुनने वाले मेरी दुआ को सुनले, और तमाम तअरीफ अल्लाह ही के लिए है और तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए है हर हाल में, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है।

को पाक कर दे, ऐ कुव्वत वाले मुझे कुव्वत बख़्श और मुझ से मेरी कम्ज़ोरी को दूर करदे और मुझे अपनी पनाह में ले ले अपने क़हर से और उस दिन से जिस के बारे में तूने फरमाया आज किस के लिए बादशाहत है यकीनन यक्ता बहुत क़हर वाले अल्लाह के लिए है, ऐ बड़ी कुदरत वाले तू मुझे शैख अब्दुल कादिर जीलानी में फ़ना होने वाला और मोहम्मदुर्रसूलुल्लाह में फ़ना होने वाला, अल्लाह में फ़ना होने वाला और अल्लाह के साथ बाकी रहने वाला मक़ाम अता फरमा दे, ऐ बदला लेने वाले तू मेरे दुश्मन इब्लीस से और उसके लश्करियों से इन्तेक़ाम ले और मुझे उनसे बचाले, ऐ ख़िल्क़त फ़रमाने वाले तू मुझे अज़ीम अख़्लाक़ अता फरमा दे, ऐ तौबा के क़बूल करने वाले तू मेरे तमाम गुनाहे सग़ीरा व कबीरा को बख़्श दे और मेरी तौबा क़बूल फरमा, ऐ आगे बढ़ाने वाले तू मुझे अपनी बारगाह में तेरी मर्जी हासिल करने में पेश पेश करदे, ऐ बाकी रहने वाले तू बाकी

(ر) خاکی

صَلْوَةُ الرَّاءِ الْأَرْبَعِينَ

بُدُونِ النُّقْطَةِ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الرَّاحِمِ الْأَرْحَمِ ○ أَسْأَلُكَ أَيُّ
 طَاهِرٍ أَيُّ امْرِئٍ أَيُّ مُطَهَّرٍ أَيُّ مُصَوِّرٍ صَلِّ
 وَسَلِّمْ دَائِمًا وَكَرَّمًا كَرَمًا سَرْمَدًا عَلَى
 مَوْلَانِي رَحْمِكَ وَكَرَمِكَ وَإِمَامِ رُسُلِكَ
 وَعَلَامِ أَسْرَارِ كَلَامِ اللَّهِ وَمَرَادِ اللَّهِ وَأَمْرِ اللَّهِ
 وَسِرِّ اللَّهِ وَمَسْوَدِ كُلِّ رَاحِمٍ وَمَسْوَدِ كُلِّ رَاكِعٍ
 وَمَسْوَدِ كُلِّ وَارِعٍ وَمَسْوَدِ كُلِّ مُكْرَمٍ

وَسِرِّ أَسْرَارِ رَوْعٍ وَرُوحٍ وَمُعْطَى كَمَالِ
 أَسْرَارِكَ وَأَكْرَمِ عَالَمِكَ وَرِدْدِكَ الْمُبْعَلِّمِ
 وَسِرِّ عُلُومِكَ الشَّرْمِدِيِّ وَمُسْلِكَ صِرَاطِكَ
 وَمَلِكِ دَارِ السَّلَامِ وَأَمْرِكَ الْكَمَالِ
 وَصَارِمِكَ الْمَسْئُولِ وَعَلَامِ مَا صَارَ وَمَا
 صَارَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى وَالِدِهِ وَأُمِّهِ وَآلِهِ
 وَالْمَوْلَى عَلِيٍّ وَوَلَدَتِي عَلِيٍّ وَ أُمَّهَاتِ مَوْلَانِي
 مُحَمَّدِي الْإِسْلَامِ وَآلِهِ وَمَوْلَانِي وَإِلَى الْإِسْلَامِ
 وَآلِهِ وَمَوْلَانِي أَحْمَدَ وَآلِي اللَّهِ وَخَوَارِجِي وَآلِي اللَّهِ
 وَآلِهِ وَكُلِّ الْمَلِكِ وَالْأَمَمِ كُلِّ الْحَالِ ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میں
 تجھ سے سوال کرتا ہوں اے نہایت پاک اے حکم فرمانے والے،

روحانی اصحاب پر اور آل پر تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر ہر دم۔

تَرْجَمَا: اَللّٰہ کے نام سے شُرُوءُ جو بڑا مہرَبان نِہایَت رَہْم والا ہے، مَیں تُوڑ سے سِوال کرتا ہُوں اے نِہایَت پاک، اے حُکْم فرمانے والے، اے بَہُت پاک کرنے والے، اے سُوْرَت بنانے والے تُو خُوْب خُوْب داِئِمی دُروْدو سَلام اُور سَرْمَدی کَرَم نَاجِل فرما مَیرے مَولِا اُور اِپنی رَہْمَت، اِپنے کَرَم، اِپنے رَسُوْلُوں کے اِمام، کَلامِ اِلهی کے رَازوں کو خُوْب جاننے والے، اَللّٰہ کی مَراَد، اَللّٰہ کا اِمر، اَللّٰہ کا رَاز، تَمَام رَحْم کرنے والوں کے سَرْدار، تَمَام تَقْوِیٰ والوں کے سَرْدار، تَمَام شَرِیْفُوں کے سَرْدار، قَلْب اور رُوْح کے رَازوں کے رَاز، تِیرے رَازوں کا کَمال عطا کرنے والے، تِیرے عَالَم میں سَب سے بَاعِزَت، تِیرے ماہِر رَہْمَن، تِیرے سَرْمَدی عِلْم کے رَاز، تِیرے رَاسْتے پَر چَلانے والے، جَنّت کے مالک، تِیرے کَمال اِمر، تِیری کھلی ہوئی تَلوار، جو ہو اُور جو نہ ہو اَسب کے خُوْب جاننے والے اَللّٰہ کے رَسول مُحَمَّد صَلِیُّ اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ پر اور آپ صَلِیُّ اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے والد پَر، اور آپ صَلِیُّ اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی والدہ پَر، آپ صَلِیُّ اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی اَولاد پَر اور سِیدی مَولِیٰ عَلِی مَرْتَضِیٰ پَر اور مَولِیٰ عَلِی کے دُونوں لَڈُوں اِمام حَسَن اور اِمام حَسِین پَر اور سِیدہ فَاطِمہ زَہرا پَر اور اِسلام کے زَندہ کرنے والے شِیخ اَبِد القادر جِیلانی پَر، آپ کی اَولاد پَر اور اِسلام کے مَدَدگار خَواجہ مَعین الدین پَر اور آپ کی اَولاد پَر اور سِید مَخْدُوم اَحْمَد وِلی اللّٰہ پَر آپ کے تَمَام

اے بہت پاک کرنے والے، اے صورت بنانے والے تو خوب خوب دائمی درود و سلام اور سمدی کرم نازل فرما میرے مولیٰ اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے رسولوں کے امام، کلام الہی کے رازوں کو خوب جاننے والے، اللہ کی مراد، اللہ کا امر، اللہ کا راز، تمام رحم کرنے والوں کے سردار، تمام رکوع کرنے والوں کے سردار، تمام تقویٰ والوں کے سردار، تمام شریفوں کے سردار، قلب اور روح کے رازوں کے راز، تیرے رازوں کا کمال عطا کرنے والے، تیرے عالم میں سب سے باعزت، تیرے ماہر رہنما، تیرے سمدی علوم کے راز، تیرے راستے پر چلانے والے، جنت کے مالک، تیرے کمال امر، تیری کھلی ہوئی تلوار، جو ہو اور جو نہ ہو اسب کے خوب جاننے والے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اور سیدی مولیٰ علی مرتضیٰ پر اور مولیٰ علی کے دونوں لڈوں امام حسن اور امام حسین پر اور سیدہ فاطمہ زہرا پر اور اسلام کے زندہ کرنے والے شیخ عبدالقادر جیلانی پر، آپ کی اولاد پر اور اسلام کے مددگار خواجہ معین الدین پر اور آپ کی اولاد پر اور سید مخدوم احمد ولی اللہ پر آپ کے تمام

شنبه (سنچر)

(۱) آتشی

صَلْوَةُ الْأَلِفِ الْأَرْبَعِينَ

بِدُونِ النَّقْطَةِ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْمَلِكِ السَّلَامِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 الْمَرَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ حَيٌّ أَحَدٌ صَمَدٌ أَوَّلٌ وَإِلَى دَائِمٍ صَلَّى وَسَلَّمْ
 سَرْمَدًا عَلَى مَسُودِيَّ اسْمُهُ الْعُلَى حَامِدٌ
 وَمُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدٌ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى وَآلِهِ وَآلِهِ
 وَآلِهِ وَحَوَارِيِّ رَسُولِ اللَّهِ وَهُجِيِّ الْإِسْلَامِ

والے، جنت کے مالک، تیرے کمالے امیر، تیری
 खुली हुई तलवार, जो हुवा और जो न हुवा सब
 के खूब जानने वाले अल्लाह के रसूल मोहम्मद
 ﷺ पर और आप ﷺ के वालिद पर, और
 आप ﷺ की वालिदा पर और आप ﷺ की
 आल व औलाद पर और सय्यिदी मौला अली
 मुर्तजा पर और मौला अली के दोनों लाडलों
 इमामे हसन और इमामे हुसैन पर और सय्यिदा
 फातिमा जहरा पर और इस्लाम के ज़िन्दा करने
 वाले शैख अब्दुल कादिर जीलानी पर, आप की
 आल पर और इस्लाम के मददगार ख्वाजा
 मोईनुद्दीन पर और आप की आल पर और
 सय्यिद मखदूम अहमद वलीयुल्लाह पर आप के
 तमाम रूहानी अस्हाब पर और आल पर, तमाम
 फिरिश्तों और तमाम उम्मतियों पर हर दमा।

ہے، سلامتی دینے والا ہے ﷻ تمام تازیف اﷲاھ ہی کے لیے ہے ﷻ تمام تازیف اﷲاھ ہی کے لیے ہے ہر ہال میں اﷲاھ ہے اسکے سوا کوئی زبادت کے لایک نہیں وہ ہمہشا زیندا رہنے والا ہے، یکتا ہے، بنیایا ز ہے، سب سے پہلے ہے، مددگار ہے، ہمہشگی والا ہے، تو خبب خبب سرمدی دورد و سلام نا زیل فرما مےرے اس سردار پر جس کا اسم بوند ہے، وہ تازیف کرنے والے ہیں، بہت تازیف کئے گئے ہیں، اور اللہ کے رسول محمد ﷺ کے (اور خبب دوردو سلام نا زیل فرما) آپ ﷺ کے والید پر، آپ ﷺ کی والیدا پر اور آپ ﷺ کی آلال و اسٹھاب پر اور اسٹلام کے زیندا کرنے والے شیخ عبدالقادر جیلانی پر اور اسٹلام کے مددگار خواجہ معین الدین پر اور سید مخدوم احمد ولی اللہ پر آپ کے تمام روحانی اصحاب پر اور آپ ﷺ کی ساری امت پر ہردم۔

وَوَالِي الْإِسْلَامِ وَآخِمْدَ وَوَالِي اللّٰهِ وَوَحَوَارِيَّ وَوَالِيَّ

اللّٰهِ وَوَكُلِّ أُمَّيْهِ كُلِّ لَبْحِ ۝

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو مالک ہے سلامتی دینے والا ہے اللہ، تمام تازیف اللہ ہی کے لیے ہے اللہ تمام تازیف اللہ ہی کے لیے ہے ہر حال میں، اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، سب سے پہلے ہے، مددگار ہے، ہمیشگی والا ہے، تو خوب خوب سرمدی دورد و سلام نا زیل فرما مےرے اس سردار پر جس کا اسم بلند ہے، وہ تازیف کرنے والے ہیں، بہت تازیف کئے گئے ہیں، اور اللہ کے رسول محمد ﷺ کے (اور خوب دوردو سلام نا زیل فرما) آپ ﷺ کے والید پر، آپ ﷺ کی والیدا پر اور آپ ﷺ کی آلال و اصحاب پر اور اسٹلام کے زندہ کرنے والے شیخ عبدالقادر جیلانی پر اور اسٹلام کے مددگار خواجہ معین الدین پر اور سید مخدوم احمد ولی اللہ پر آپ کے تمام روحانی اصحاب پر اور آپ ﷺ کی ساری امت پر ہردم۔

تارجمہ: اﷲاھ کے نام سے شرو ز جو مالیک

(ب) بادی

صَلُوةُ الْبَاءِ الْأَرْبَعِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ بِسْمِ اللَّهِ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِسْمِ اللَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ بِسْمِ اللَّهِ
 وَالشُّعَاءُ لِلَّهِ اللَّهُ رَبِّي لَا شَرِيكَ لَهُ سُبْحَانَكَ
 الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى
 سَيِّدِنَا الدَّاعِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبَصِيرِ فِي الْمَكَانِ
 وَاللَّامِكَانَ وَبَاسِطِ الرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَاتِ فِي
 الْعَالَمِينَ وَالرَّسُولِ الْأَكْبَرِ وَالنَّبِيِّ الْأَفْضَلِ
 وَمُحَبَّبِ رَبِّ الْمَكَانِ وَاللَّامِكَانَ وَفَحْبَبَةِ
 الْكِبْرِيَاءِ وَمُبَشِّرِ الْحَقِيقَةِ وَذَاكِرِ يَا بَاقِي قَبْلَ

كُلِّ شَيْءٍ وَبَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ
 وَالْبُرْهَانَ الْمُبِينِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى
 وَالِدِيهِ وَآلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْبَابِهِ
 وَجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَ
 الْمَلَائِكِ وَالْأُمَّمِ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ
 أَجْمَعِينَ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ صَلُوةٌ تُحْيِي بِهَا
 قُلُوبَ أُمَّةٍ حَبِيبِكَ بِذِكْرِكَ الْقَدِيمِ وَ
 تَحْفَظُهُمْ بِهَا مِنْ كُلِّ الْأَمْرَاضِ وَتُعِزُّهُمْ
 بِهَا فِي الدَّهْرِ وَالْقَبْرِ وَالْحَشْرِ وَتَرْزُقُهُمْ بِهَا
 رِضْوَانَكَ وَرِضْوَانَ رَسُولِكَ يَا سَمِيعَ الدُّعَاءِ
 وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ وَيَا جَارَ
 الْمُسْتَجِيرِينَ أَكْرَمَنِي أَكْرَمَنِي يَا أَرْحَمَ

الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ۝

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ کے نام سے شروع اور تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے اللہ کے نام سے شروع اور تمام شکر اللہ ہی کے لئے ہے، اللہ کے نام سے شروع اور تمام ثناء اللہ ہی کے لئے ہے، اللہ میرا پالنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو پاک ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، تو خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار نیکی کی طرف بلانے والے، مکان و لامکان میں دیکھنے والے، سارے عالم میں رحمت و برکت کھولنے والے، بڑی شان والے رسول، سب سے افضل نبی، مکان و لامکان کے رب کے محبوب، بڑی شان والی ذات کی محبت، حقیقت کی بشارت دینے والے، ظاہر و باطن میں ”اے باقی رہنے والے ہر چیز کے پہلے اور ہر چیز کے بعد“ کا ذکر کرنے والے، اور روشن دلیل اللہ کے رسول محمد ﷺ پر (اور خوب درود و سلام نازل فرما) آپ ﷺ کے والدین پر، آپ ﷺ کی آل و اہل بیت پر اور آپ ﷺ کے اصحاب و احباب پر تمام انبیاء و شہداء اور اولیاء پر، تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر، تمام آسمان و زمین والوں میں سے اپنی تمام معلوم تعداد کے مطابق ایسا درود کہ جس کی برکت سے تو اپنے حبیب ﷺ کی امتیوں

کے دلوں کو اپنے ذکر قدیم سے زندہ فرمادے اور انہیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرمادے، انہیں دہر و قبر و حشر میں عزت بخش اور انہیں اپنی اور اپنے رسول کی رضا و خوشنودی عطا فرما اے دعاؤں کے سننے والے، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچنے والے، اے پناہ چاہنے والوں کو پناہ دینے والے، تو مجھ پر کرم فرما کرم فرما کرم فرما، اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور تمام حمد و شکر اللہ ہی کے لئے ہے ہر حال میں۔

تَرْجَمًا: اَللّٰہ کے نام سے شُرُؤْ جُو بڈا مہربان نہایت رَحْمَہ والا ہے، اَللّٰہ کے نام سے شُرُؤْ اُور تَمَام تَاْرِيْفِ اَللّٰہ ہي کے لیے ہے، اَللّٰہ کے نام سے شُرُؤْ اُور تَمَام شُكْرِ اَللّٰہ ہي کے لیے ہے، اَللّٰہ کے نام سے شُرُؤْ اُور تَمَام سَنَاءِ اَللّٰہ ہي کے لیے ہے، اَللّٰہ کے نام سے شُرُؤْ اُور تَمَام ثَنَاءِ اَللّٰہ ہي کے لیے ہے، اَللّٰہ میرا پالنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو پاک ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، تو خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار نیکی کی طرف بلانے والے، مکان و لامکان میں دیکھنے والے، سارے عالم میں رحمت و برکت کھولنے والے، بڑی شان والے رسول، سب سے افضل نبی، مکان و لامکان کے رب کے محبوب، بڑی شان والی ذات کی محبت، حقیقت کی بشارت دینے والے، ظاہر و باطن میں ”اے باقی رہنے والے ہر چیز کے پہلے اور ہر چیز کے بعد“ کا ذکر کرنے والے، اور روشن دلیل اللہ کے رسول محمد ﷺ پر (اور خوب درود و سلام نازل فرما) آپ ﷺ کے والدین پر، آپ ﷺ کی آل و اہل بیت پر اور آپ ﷺ کے اصحاب و احباب پر تمام انبیاء و شہداء اور اولیاء پر، تمام فرشتوں اور تمام امتیوں پر، تمام آسمان و زمین والوں میں سے اپنی تمام معلوم تعداد کے مطابق ایسا درود کہ جس کی برکت سے تو اپنے حبیب ﷺ کی امتیوں

सुन ने वाले, ऐ फरयाद करने वालों की फरयाद को पहुंचने वाले, ऐ पनाह चाहने वालों को पनाह देने वाले, तू मुझ पर करम फरमा करम फरमा करम फरमा, ऐ तमाम रहम करने वालों में सब से ज्यादा रहम करने वाले, और तमाम हम्दो शुक्र अल्लाह ही के लिए है हर हाल में।

(ج) آبی

صَلْوَةُ الْجِيمِ الْأَرْبَعِينَ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْمَاجِدِ الْمُجِيبِ يَا جَلِيلُ
تَجَلَّلْتَ بِالْجَلَالِ وَالْجَلَالُ فِي جَلَالِ جَلَالِكَ
يَا جَلِيلُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَجِيدُ
الْجَوَادُ الْوَاجِدُ الْجَبَّارُ الْجَمَّالُ ذُو الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ
وَيَارَافِعِ الدَّرَجَاتِ وَيَأْمُحِبِبِ الدَّعَوَاتِ أَنْ

वाले, बड़ी शान वाले रसूल, सब से अफज़ल नबी, मकान व लामकाँ के रब के महबूब, बड़ी शान वाली जात की मोहब्बत, हकीकत की बशारत देने वाले, जाहिर व बातिन में “ऐ बाकी रहने वाले हर चीज़ के पहले और हर चीज़ के बाद” का जिक्र करने वाले, और रौशन दलील अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर (और खूब दुरूदो सलाम नाज़िल फरमा) आप ﷺ के वालिदैन पर, आप ﷺ की आल व अहले बैत पर और आप ﷺ के अरहाब व अहबाब पर तमाम अम्बिया व शोहदा और औलिया पर तमाम फिरिशतों और तमाम उम्मतियों पर, तमाम आस्मान व ज़मीन वालों में से अपनी तमाम मअलूम तअदाद के मुताबिक़ ऐसा दुरूद कि जिस की बरकत से तू अपने हबीब ﷺ की उम्मतियों के दिलों को अपने जिक्र कदीम से ज़िन्दा फरमा दे और उन्हें तमाम बीमारियों से महफूज़ फरमा दे, उन्हें दहो कब्रो हश्म में इज़्ज़त बख़्श और उन्हें अपनी और अपने रसूल की रेजा और खुश्नूदी अता फरमा ऐ दुआओं के

تَقْضَىٰ حَاجَاتِي كُلَّهَا فِي الدَّهْرِ وَالْقَبْرِ وَالْحَشْرِ
 وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَجُودِكَ وَجَوَادِكَ وَسِرَّاجِكَ
 وَنَجِيَّتِكَ وَنَجِيَّتِكَ وَجَمَالِ مُلْكِكَ وَتَجَلِّيِ
 عَالَمِكَ وَ أَشْرَفِ كُلِّ مَوْجُودٍ وَحَيَاةِ كُلِّ
 مَوْجُودٍ وَعَبْدِكَ الْمُهْجَابِ وَفَرْدِكَ الْجَامِعِ
 وَالْمُوَيَّدِ بِجِبْرِيلَ وَكُلِّ مَلَائِكِكَ وَقُطْبِ
 فَلَكِ الْجَمَالِ وَمَعِينِ الْجُودِ وَالْإِحْسَانِ
 وَصَاحِبِ الْمُعْجَزَاتِ وَصَاحِبِ جَوَامِعِ
 الْكَلِمِ وَدُرَّةِ صَدْفَةِ الْوُجُودِ وَسَيِّدِ
 السَّاجِدِينَ وَأَشْرَفِ الصُّورَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ
 وَصَاحِبِ الْمُعْطَرِ الْجِسْمِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ

وَعَلَىٰ وَالِدَيْهِ وَآلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَكُلِّ
 الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْمَلَائِكِ
 وَالْأُمَّمِ مِنْ أَهْلِ السَّنُوْتِ وَالْأَرْضِيْنَ
 أَجْمَعِينَ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَّكَ بِكَرَمِكَ يَا
 أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بزرگی والا ہے، قبول فرمانے والا ہے، اے عظیم بزرگی والے تو نے بزرگی ظاہر فرمائی بزرگی سے اور بزرگی تیری عظیم بزرگی کی بزرگی میں ہے اے عظیم بزرگی والے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگی والا ہے، بڑا سخی ہے، بے نیاز ہے، بڑا زبردست ہے، بہت خوبصورت ہے، عزت و بزرگی والا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے حاجتوں کو پورا کرنے والے، اے درجات بلند کرنے والے، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، تو میری تمام ضرورتوں کو پوری فرما دہر میں قبر میں حشر میں اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو خوب خوب درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار ہمارے مولیٰ اپنی بزرگی، اپنے احسان، اور اپنے سخی، اپنے چراغ، اپنے نجات

وَرَوْحِي وَمُدْرِكِي وَفَحْلِي هَوَائِي وَسَطْعِي وَسِرِّي
 وَمَرَاجِي كَمَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَلَى أَدَمَ وَأَوْلَادِهِ
 وَاسْمَعِ كَلَامِي كَمَا سَمِعَ اللَّهُ كَلَامَ أَدَمَ
 وَأَوْلَادِهِ وَأَصْلِحْ دَهْرِي وَخَدِي وَعَصْرِي
 وَمَوْعُودِي وَلَبِحِي وَكُلِّ حَالِي مَعَ وَدِّكَ
 وَرَسُولِكَ وَ أَكْبِلْ عَلَيَّ كُلَّ الْآيَاتِ مَعَ
 كَرَمِكَ الْأَعْلَى وَأَعْطِ أَرْوَاعَ أَوْلَادِ أَدَمَ
 لِبَاعِ كَلَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
 وَأَسْعِدْ رَهْطَ رَسُولِكَ مَعَ وَدِّ إِسْلَامِكَ
 وَطَوْعِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ صَلِّ وَسَلِّمْ
 مِرَارًا عَلَى مَوْلَانِي إِسْمَةَ الْأَعْلَى طَاهِرٌ وَمُطَهَّرٌ
 وَحَامِدٌ وَمُحَمَّدٌ وَأَحْمَدٌ وَهَادٍ وَدَاعٍ وَهَدَى

अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ पर, और (खूब
 दुखदो सलाम नाज़िल फ़रमा) आप ﷺ के
 वालिदैन पर आप ﷺ की आल व अहले बैत
 पर और आप ﷺ के अस्हाब पर, तमाम अम्बिया
 व शोहदा और औलिया पर, तमाम फ़िरिश्तों
 और उम्मतियों पर, तमाम आस्मानों और ज़मीन
 वालों में से अपनी तमाम मअलूम तअदाद के
 मुताबिक़ ऐ तमाम करम करने वालों में सब से
 ज्यादा करम करने वाले तेरे करम का वास्ता है।

(द) खाकी

صَلْوَةُ الدَّالِ الْأَرْبَعِينَ

بُدُونِ النُّقْطَةِ

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْوَدُودِ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ
 الْأَحَدَ الصَّبَدُ الْعَدْلُ الدَّائِمُ أَدِمْ رَحْمَتَكَ
 وَكَرَمَكَ عَلَيَّ وَأَكْرِمْ عَلَيَّ كُلَّ أَحْوَالِي وَرَوْعِي

اللَّهُ وَمَسْعُودُ اللَّهِ وَعَلِمُ الْهُدَى وَرُحْمَكِ
 الدَّائِمِي وَمَوْلُودُ دَارِ الْحَرَمِ وَهُوَ مَسْعُودُكَ
 الْأَعْلَى وَرِدُّكَ الْمَعْلَمُ مُحَمَّدٌ رَسُولِ اللَّهِ
 وَعَلَى وَالِدِهِ وَأُمِّهِ وَإِلَيْهِ وَأَهْلِهِ حَرَمِهِ
 وَحَوَارِيِّ رَسُولِ اللَّهِ وَكُلِّ الْمُرْسَلِ وَكُلِّ وَلِيِّ
 اللَّهِ وَمَوْلَائِي فَحَيِّ الْإِسْلَامِ وَآلِهِ وَوَالِي
 الْإِسْلَامِ وَآلِهِ وَمَوْلَائِي أَحْمَدَ وَمَوْلَائِي أَحْمَدَ
 وَوَلِيِّ اللَّهِ وَحَوَارِيِّ وَوَلِيِّ اللَّهِ وَكُلِّ الْمَلَائِكِ وَ
 الْأَمَمِ كُلِّ الْحَالِ ○

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو تنہا ہے بہت محبت کرنے والا ہے، میں
 تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے ہمارے اللہ تو یکتا ہے بے نیاز ہے،
 انصاف فرمانے والا ہے، ہمیشگی والا ہے، تو اپنی رحمت اور کرم کو مجھ پر دائمی
 فرمادے، اور میری ہر حالت، میرے دل، میری روح، میری عقل اور

میرے نفس، میرے ظاہر، میرے باطن اور میرے مقاصد پر ویسا ہی
 کرم فرما جیسا کہ تو نے آدم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر کرم
 فرمایا، اور میری دعا کو قبول فرما جیسا کہ تو نے آدم علیہ السلام کی اور ان کی
 اولاد کی دعا قبول فرمائی، میرے دہر و قبر و حشر کو میرے لمحوں اور میرے ہر
 حال کو اچھا کر دے اپنے اور اپنے رسول کی محبت کے ساتھ اور مجھ پر اپنے
 کرم اعلیٰ کے واسطے سے اپنی ساری نعمتیں مکمل فرمادے اور اولاد آدم کے
 دلوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے فیوض و برکات عطا فرما اور اپنے
 رسول کی امت کو نیک بخت بنادے اپنے اسلام کی محبت کے ساتھ اور اس
 کی اطاعت کے ساتھ، تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے ہر حال میں، تو
 خوب خوب ہمیشہ درود و سلام نازل فرما میرے اس مولیٰ پر جس کا اسم
 بلند ہے وہ پاک ہیں، وہ بہت پاک کرنے والے ہیں، وہ تعریف کرنے
 والے ہیں وہ تعریف کئے گئے ہیں، بہت زیادہ تعریف کرنے والے
 ہیں، ہدایت دینے والے ہیں اور دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی ہدایت
 ہیں، اللہ کے نیک بخت ہیں، ہدایت کی پہچان ہیں، اور تیری دائمی رحمت
 ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ تیرے بلند سعادت مند اور تیرے
 مددگار رہنما اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں (اور خوب درود و سلام نازل
 فرما) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر، والدہ پر، آل و اہل بیت پر، اور اصحاب

साथ और मुझ पर अपने करमे अअला के वास्ते से अपनी सारी नेअमतेँ मोकम्मल फरमादे और औलादे आदम के दिलों को कल्मए लाइलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुरसूलुल्लाहि के फुयूजो बरकात अता फरमा और अपने रसूल की उम्मत को नेक बख्त बनादे अपने इस्लाम की मोहब्बत के साथ और उसकी एताअत के साथ, तमाम तअरीफ अल्लाह ही के लिए है हर हाल में, तू खूब खूब हमेशा दुखदो सलाम नाज़िल फरमा मेरे उस मौला पर जिस का इस्म बुलंद है वह पाक हैं, वह बहुत पाक करने वाले हैं, वह तअरीफ करने वाले हैं, वह तअरीफ किये गए हैं, बहुत ज़्यादा तअरीफ करने वाले हैं, हिदायत देने वाले हैं, और दअवत देने वाले हैं, अल्लाह की हिदायत हैं, अल्लाह के नेक बख्त हैं, हिदायत की पहचान हैं, और तेरी दाइमी रहमत हैं, मक्का में पैदा हुए हैं और वह तेरे बुलंद सआदतमंद और तेरे मददगार रहनुमा अल्लाह के रसूल मोहम्मद ﷺ हैं (और खूब दुखदो सलाम नाज़िल फरमा) आप ﷺ के वालिद पर, वालिदा पर, आल व अहले

पर, तमाम رسولों और اولیاء پر، اور اسلام کے زندہ کرنے والے شیخ عبدالقادر جیلانی پر اور آپ کی آل پر، اسلام کے مددگار خواجہ معین الدین پر اور آپ کی آل پر، اور سید احمد پر، سید مخدوم احمد ولی اللہ پر اور ولی اللہ کے اصحاب روحانی پر تمام فرشتوں اور امتیوں پر ہر دم۔

تर्जमा: अल्लाह के नाम से शुरूअ जो तन्हा है बहुत मोहब्बत करने वाला है, मैं तुझ से सवाल करता हूँ, ऐ हमारे अल्लाह तू यक्ता है, बेनियाज़ है, इन्साफ़ फरमाने वाला है, हमेशगी वाला है, तू अपनी रहमत और करम को मुझ पर दाइमी फरमादे, और मेरी हर हालत, मेरे दिल, मेरी रूह, मेरी अक्ल और मेरे नफ़स, मेरे ज़ाहिर, मेरे बातिन और मेरे मक्कासिद पर वैसा ही करम फरमा जैसा कि तूने आदम अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलाद पर करम फरमाया, और मेरी दुआ को कबूल फरमा जैसा कि तूने आदम अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद की दुआ कबूल फरमाई, मेरे दहो कब्रो हश्न को मेरे लम्हों और मेरे हर हाल को अच्छा करदे अपने और अपने रसूल की मोहब्बत के

